


مُتَكَبِّرِينَ تَرَاوِثَ (غَيْرِ مُقْلِدِينَ) كِيلَهُ لِمَحَفَّةِ فَكَرِي

نَارُ الْجَنَّةِ وَرَأْسُ الْمُتَكَبِّرِ مِنْ زَرْقَ

فاليم

استاذ المناظرين حمد الله بن حبيب
حضرمتنا بباب العلوم کہروڑ پکا
جامعة اسلامیہ باب العلوم کہروڑ پکا



الْتَّحَادُّ أَهْلُ السُّنْتِ وَالْجَمَاعَتِ پاکستان



منکرین تراویح (غیر مقلدین) کیلئے لمحہ فکر یہ

نمازِ تہجد و تراویح میں فرق

استاذالمنظرين حفظ الله عنه
مُنْتَهِيَّ رَحْمَةِ نَبِيٍّ
حَفَظَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تألیف


استاذ الحدیث جامعہ باب العلوم کہروڑ پاک

انحاوں ایں السنّہ والجماعۃ بالسنّہ



19	دیل نمبر 14 (ساری رات قیام)	شہدا قبائل اور محقق عالم کے درمیان مکالمہ
20	دیل نمبر 15 (پورا قرآن کریم ختم کرنا)	غیر مقلدین کا نظریہ ان کی کتابوں میں
20	دیل نمبر 16 (تعین رکعات)	تہجد اور تراویح کے فرق پر دلائل
20	دیل نمبر 17 (وتروں کی جماعت)	دیل نمبر 1 (ماخذِ مشروعیت)
20	دیل نمبر 18 (شعارِ اسلام)	دیل نمبر 2 (مکانِ مشروعیت)
21	دیل نمبر 19 (وقت جدا جدا)	دیل نمبر 3 (زمانہ مشروعیت)
22	دیل نمبر 20 (نام جدا جدا)	دیل نمبر 4 (کیفیتِ مشروعیت)
22	دیل نمبر 21 (باب جدا جدا)	فائدہ
24	دیل نمبر 22 (رمضان کی شرط)	دیل نمبر 5 (نبی ﷺ پر فرضیہ تہجد کا قول)
24	دیل نمبر 23 (مسجد میں جماعت)	دیل نمبر 6 (سنن مؤکدہ و غیر مؤکدہ)
25	دیل نمبر 24 (تہجد بعد ازاں نوم)	دیل نمبر 7 (جماعت اور غیر جماعت)
25	دیل نمبر 25 (قیام لیل اور قیام رمضان)	دیل نمبر 8 (رمضان و غیر رمضان)
26	رمضان میں تراویح اور تہجد کا ثبوت	دیل نمبر 9 (چار رکعت اور دو رکعت)
26	دیل نمبر 26 ۱۲۶	دیل نمبر 10 (نیند کا وقفہ)
28	دیل نمبر 27 ۲۸	دیل نمبر 11 (حدیث من قام)
29	دیل نمبر 28 ۳۲۸	دیل نمبر 12 (ترغیب جماعت)
30	دیل نمبر 29 ۴۲۹	دیل نمبر 13 (اہتمام جماعت کیشہ)

51	دیل نمبر 24\49	31	دیل نمبر 5\30
52	دیل نمبر 25\50	32	فائدہ نمبر 1
52	دیل نمبر 26\51	33	فائدہ نمبر 2
53	دیل نمبر 27\52	33	فائدہ نمبر 3
53	دیل نمبر 28\53	36	دیل نمبر 6\31
54	دیل نمبر 29\54	38	دیل نمبر 7\32
54	دیل نمبر 30\55	39	دیل نمبر 8\33
54	دیل نمبر 31\56	41	دیل نمبر 9\34
54	دیل نمبر 32\57	43	دیل نمبر 10\35
55	دیل نمبر 33\58	44	دیل نمبر 11\36
55	دیل نمبر 34\59	45	دیل نمبر 12\37
55	دیل نمبر 35\60	45	دیل نمبر 13\38
55	دیل نمبر 36\61	46	دیل نمبر 14\39
56	دیل نمبر 37\62	47	دیل نمبر 15\40
56	دیل نمبر 38\63	47	دیل نمبر 16\41
56	دیل نمبر 39\64	48	دیل نمبر 17\42
58	دیل نمبر 40\65	48	دیل نمبر 18\43
58	دیل نمبر 41\66	48	دیل نمبر 19\44
58	دیل نمبر 42\67	48	دیل نمبر 20\45
59	دیل نمبر 43\68	49	دیل نمبر 21\46
62	غیر مقلد پروفیسر سے شاہد کے سوالات	49	دیل نمبر 22\47
		50	دیل نمبر 23\48



شاهد اقبال صوم صلاوة، ذكر وتلاوت کا پابند، نیک سیرت اور نیک صورت نوجوان تھا۔ وہ جب کانج میں پہنچا تو ایک متعصب غیر مقلد پروفیسر نے شاہد کی نیکی اور شرافت کو دیکھ کر اس کو شکار کرنے کا پیغامہ عزم کر لیا۔ پروفیسر موصوف نے استاد ہونے کے ناطے پہلے تو اس کو اپنے ساتھ مانوس کیا۔ پھر اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرنے اور مسوے ڈالنے شروع کئے۔ رفتہ رفتہ اس کو اس لائن پر لگایا کہ تم بہت سمجھدار تعلیم یافتہ ہو اس لئے مولویوں کے پیچھے گلنے کی بجائے دین کی خود تحقیق کرو۔ رمضان شریف قریب تھا۔ اس نے تراویح کے مسئلہ کی تحقیق شروع کر دی۔ اس مسئلہ پر دونوں فریقوں کی تحریر کردہ کتب کا مطالعہ کیا لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ شاہد کا نہ بیس تراویح پر یقین رہانہ آٹھ پر بلکہ اس کو تراویح ایک مشکوک عبادت محسوس ہونے گی۔ رمضان شریف اسی گوموکھی کی کربناک حالت میں گزارا۔ کبھی وہ بیس تراویح پڑھتا کبھی آٹھ اور کبھی آٹھ نہ بیس۔ لیکن پروفیسر صاحب اپنے اس شاگرد پر بڑے خوش تھے کہ چلو تلقید کے بندھن سے تو نکلا، آگے جو بن جائے اس کی بلا جانے۔ لیکن شاہد نے اپنے آپ کو اس اذیتتاک حالت سے نکانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ طریقہ یہ سوچا کہ جید حنفی عالم جو غیر مقلدین کے مذہب پر خوب مطالعہ رکھتا ہوا در قرآن حدیث و فقہ پر بھی کامل دسترس رکھتا ہو سے تحقیق کی جائے۔ اس سے تحقیق کر کے پھر پروفیسر صاحب سے ملاقات کی جائے۔ چنانچہ شاہد اقبال اتحاد اہل السنّت والجماعت کے ایک محقق عالم کے پاس حاضر ہو کر علیک سلیک کے بعد اپنے سوالات کا یوں آغاز کرتا ہے۔

شاهد اقبال : (محقق عالم سے مخاطب ہو کر) حضرت یہ فرمائیے کہ آٹھ اور بیس تراویح کے اختلاف کی کیا حقیقت ہے؟

محقق عالم : پیارے شاہد: میں اور کچھ کہنے سے پہلے آپ کو دونوں فریقوں کے اصولوں سے آگاہ کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ مسائل کو ثابت کرنے کیلئے احتاف کے چار اصول ہیں (۱) کتاب اللہ (۲) سنت رسول اللہ (۳) اجماع امت (۴) قیاس و اجتہاد (یعنی اصول شرع اور قرآن و حدیث سے لفظی و معنوی قرائی و اشارات کی روشنی میں اپنی اجتہادی رائے سے مسئلہ کو حل کرنا) اور ظاہر ہے کہ اصول شریعت اور قرآن و حدیث کے قرائی و اشارات کے ساتھ وہی مسئلہ حل کیا جاتا ہے جو قرآن و حدیث میں واضح طور پر موجود نہ ہو، جبکہ غیر مقلدین حضرات کے اصول فقط دو ہیں (۱) قرآن کی صریح آیت (۲) صحیح صریح مرفوع متصل حدیث۔ صریح کا مطلب یہ ہے کہ جس میں اپنی رائے کا ذرہ برابر خل نہ ہو۔ یہ حضرات کہا کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات معصوم ہے اس کے سوا ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہمارے لئے اسی کا قول فعل جحت ہے جس میں غلطی کا امکان نہ ہو اور جس کے قول فعل میں غلطی کا امکان ہو وہ ہمارے لئے جحت نہیں۔ اسلئے ان کے نزدیک قرآن و حدیث یعنی وحی جحت ہے، کسی امتی کا قول، فعل اور رائے جحت اور معتبر نہیں۔ بلکہ ان کے نزدیک پیغمبر پاک ﷺ کی رائے بھی بغیر وحی کے جحت نہیں، اسکی تفصیل ”بارہ مسائل“ حصہ اول میں ملاحظہ کیجئے۔

اب اصل جواب کی طرف آئیے۔ اصل اختلاف آٹھ اور بیس کا نہیں بلکہ نماز تراویح کو مانند نہ مانند کا ہے۔ آٹھ تراویح والے لوگ سرے سے نماز تراویح کو مانتے ہی نہیں، وہ نماز تراویح کے منکر ہیں بیس تراویح والے لوگ نماز تراویح کو مانتے ہیں۔

شاهد اقبال : محترم! وہ تراویح کو مانتے ہیں مگر تراویح کی تعداد میں اختلاف کرتے

ہیں اور ہم ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ تراویح کی تعداد میں اختلاف ہے کہ آٹھ ہے یا بیس، ایک فریق آٹھ کا قائل ہے دوسرا بیس کا۔

محقق عالم: شاہد بیٹا! کسی چیز کے انکار کے دو طریقے ہیں ایک صراحتاً انکار کرنا، دوسرا منافقانہ طریقے سے انکار کرنا جس میں ظاہری طور پر اقرار ہوتا ہے عنوان بھی مثبت ہوتا ہے لیکن اس کی تہہ میں انکار چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ فلاں شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، دوسرا آدمی اسی بات کو یوں کہتا ہے کہ فلاں شخص کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے۔ دونوں نے نماز کی پابندی کا انکار کیا ہے لیکن پہلے شخص نے صراحتاً دوسرے نے اشارہ و کنایتہ کہ اس نے عنوان مثبت رکھا ہے مگر اس کے ضمن میں اس کے پابند صلوٰۃ ہونے کا انکار ہے۔ اسی طرح انہوں نے عنوان مثبت رکھا ہے آٹھ تراویح کا، مگر اس کے ضمن میں نماز تراویح کا انکار پوشیدہ ہے۔

مثال نمبر 1: اس کو ایک مثال سے سمجھئے۔ دو آدمی نمازِ عشاء کی رکعات میں اختلاف کرتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ عشاء کی فقط تین رکعات ہیں، دوسرا کہتا ہے تین نہیں بلکہ چار رکعات ہیں۔ یہاں بظاہر اخلاف تین اور چار رکعات کا ہے لیکن حقیقت میں عشاء کی تین رکعات بتانے والا نمازِ عشاء کا منکر ہے اور چار رکعات بتانے والا نمازِ عشاء کا قائل ہے کیونکہ جب ہر ایک سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو تین رکعات کے قائل نے کہا کہ اصل میں مغرب اور عشاء ایک ہی نماز کے دوناں ہیں، غروب آفتاب کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اُسی کا نام ہے نمازِ مغرب اور نمازِ عشاء اور چونکہ مغرب کی تین رکعتیں ہیں تو عشاء کی بھی تین رکعتیں ہو گی۔ اُس کا کہنا ہے کہ عشاء کی نماز کوئی مستقل جدا نماز نہیں بلکہ نماز مغرب کا دوسرا نام نمازِ عشاء ہے اور حدیث پاک میں نمازِ مغرب کیلئے نمازِ عشاء کا لفظ استعمال ہوا ہے، لہذا جب مغرب کی تین رکعتیں ہیں تو عشاء کی بھی تین رکعتیں ہو گی۔ اور چار رکعات کا

قائل کرتا ہے کہ مغرب اور عشاء دو مستقل نمازیں ہیں۔ ہر ایک کا وقت، رکعات کی تعداد جتنی کہ بعض احکام بھی دوسری نماز سے مختلف ہیں۔ مغرب کی تین رکعتیں ہیں اور عشاء کی چار رکعتیں ہیں۔ مغرب غروب شمس کے بعد اور عشاء غروب شفق کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ جب دونوں کا وقت علیحدہ علیحدہ ہے اور رکعتوں کی تعداد بھی مختلف ہے تو یہ دونوں نمازیں مستقل ہیں۔ اس مثال میں غور کریں، بظاہر ان دونوں کے درمیان تین اور چار رکعات کا اختلاف معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں عشاء کی تین رکعات بتانے والا شخص نماز عشاء کا منکر ہے۔ وہ نماز عشاء کو نماز مغرب سے جدا مستقل نماز نہیں مانتا جبکہ چار رکعات بتانے والا شخص نماز عشاء کو مانتا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نمازِ مغرب اور نمازِ عشاء دو مستقل جدا جدا نمازیں ہیں۔ اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نمازِ تراویح آٹھ رکعت ہے وہ دراصل نماز تراویح کے منکر ہیں اور جو بیس تراویح کے قائل ہیں وہ نماز تراویح کو ایک مستقل نماز مانتے ہیں کیونکہ جب آٹھ تراویح والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے عقیدہ کی وضاحت یہ کی کہ دراصل تہجد اور تراویح ایک ہی نماز کے دونام ہیں، گیارہ ماہ جو نماز تہجد کے نام سے پڑھی جاتی ہے رمضان میں اسی کا نام تراویح ہو جاتا ہے۔ پس نمازِ تراویح نمازِ تہجد سے جدا کوئی مستقل نماز نہیں اور چونکہ تہجد کی رکعات آٹھ ہیں تو تراویح کی بھی رکعات آٹھ ہوں گی۔ جبکہ بیس تراویح کے قائلین کا عقیدہ یہ ہے کہ تہجد جدا نماز ہے اور تراویح جدا نماز ہے، یہ دو مستقل نمازیں ہیں۔ اب بظاہر اختلاف یہ ہو رہا ہے کہ تراویح آٹھ ہیں یا بیس لیکن حقیقت یہ ہے کہ آٹھ کے قائلین سرے سے نماز تراویح کے منکر ہیں، وہ اس کو مستقل نماز نہیں مانتے۔ جبکہ بیس تراویح کے قائلین نماز تراویح کو ایک مستقل نماز مانتے ہیں۔

مثال نمبر 2: یا اس کو یوں سمجھیں کہ وہ لفظ بولتے ہیں تراویح کا لیکن در پردہ وہ اس سے نماز تہجد مراد لیتے ہیں۔ جیسا کہ راضی جب کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں تو ان کی

مراد وہ قرآن ہوتا ہے جو ان کے عقیدے کے مطابق امام مہدی کے پاس غار میں ہے، وہ اس موجودہ قرآن کو نہیں مانتے لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دینے کیلئے دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔

قادیانی جب کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ سے مرزا قادیانی مراد لیتے ہیں لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دینے کیلئے کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، اسی طرح غیر مقلدین بھی بھی کہتے ہیں کہ ہم نماز تراویح کو مانتے ہیں مگر وہ اس سے مراد لیتے ہیں نماز تہجد۔ اور نماز تراویح کے وہ منکر ہیں۔ جبکہ اہلسنت نماز تراویح کو نماز تہجد سے جدا ایک مستقل نماز مانتے ہیں۔

مثال نمبر 3: قرآن کریم میں ہے کہ صحابہ کرام بعض دفعہ حضور ﷺ کو کہتے ”رَاعِنَا“ (ہماری رعایت کیجئے)۔ منافقین بھی یہی کلمہ ”رَاعِنَا“ کہتے تھے مگر وہ مراد لیتے ”اے احمد“ (العیاذ بالله) جو گالی بن جاتی ہے۔ تقریباً یہی حال غیر مقلدین کا ہے۔ اہل السنّت والجماعت جب نماز تراویح کا لفظ بولتے ہیں تو نماز تہجد سے جدا نماز مراد لیتے ہیں مگر غیر مقلدین نماز تہجد مراد لیتے ہیں جس میں تراویح کا انکار ہے۔

غیر مقلدین کا نظریہ ان کی کتابوں میں

شاهد اقبال: مولا نا! کیا ان کی کتب میں اس عقیدہ کی صراحة ملتی ہے؟

حقائق عالم: جی ہاں ان کی کتب میں یہ عقیدہ صراحةً لکھا ہوا موجود ہے۔
ملاحظہ کیجئے۔

1۔ غیر مقلد مولا نانڈی راحمد رحمانی عظیٰ لکھتے ہیں۔

”تہجد فی رمضان اور تراویح میں کوئی فرق نہیں،“ (انوار المصائب: ص ۸۰)

2۔ غیر مقلد مولا نا محمد اسماعیل سلفی لکھتے ہیں۔

”رمضان المبارک میں تراویح وہی نماز ہے جس کا ذکر پہلے تہجد کے نام سے ہوا ہے..... بعض لوگ تراویح اور تہجد کو الگ الگ دونمازیں سمجھتے ہیں یہ غلط ہے“
 (رسول اکرم کی نماز: ص ۹۸)

3۔ غیر مقلد مولا نا محمد صادق سیا کلکوٹی لکھتے ہیں۔

”نماز تراویح اور تہجد دراصل ایک ہی چیز کے دونام ہیں“ (صلوٰۃ الرسول: ص ۳۷۸)

4۔ غیر مقلد حکیم عبد الرحمن غلیق لکھتے ہیں۔

”قیام اللیل (تہجد) اور نماز تراویح ایک ہی حقیقت کے دونام ہیں“ (۱۲ امسائل: ص ۱۷۱)

5۔ غیر مقلد مولا نا محمد خالد سیف لکھتے ہیں۔

”تہجد اور نماز تراویح درحقیقت ایک ہی نماز ہے“ (نماز مصطفیٰ: ص ۱۶۹)

6۔ غیر مقلد مولا نا خواجہ مجتبی قاسم لکھتے ہیں۔

”میں یہ سمجھتا ہوں تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے“ (حی علی الصلوٰۃ: ص ۳۳)

7۔ غیر مقلد حکیم عبد الشفیق الرحمن لکھتے ہیں۔

”ماہ رمضان میں تہجد اور قیامِ رمضان الگ الگ نہیں بلکہ ایک چیز ہے“ (نماز نبوی: ص ۲۳۱)

8۔ غیر مقلد حافظ عبد الرحمن لکھتے ہیں۔

”نماز تہجد یا تراویح جو نماز عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے درمیانی رات میں پڑھی جاتی ہے اس کے نام بہت ہیں۔ اسے قیام اللیل (رات کا قیام)، وتر (طاق)، بُفل، تطوع اور تہجد وغیرہ ناموں سے یاد کرتے ہیں“ (رحمانی نماز کلاس: ص ۱۸۵)

گویا حافظ عبد الرحمن کی تحقیق کے مطابق تراویح، تہجد اور تو ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔

شاهد اقبال: مولا نا! بہت بہت شکر یہ۔ آج مجھے اس اختلاف کی حقیقت سمجھا آئی ورنہ اب تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ الہدیث لوگ نماز تراویح کو مانتے ہیں، صرف آٹھ اور بیس رکعتوں کا اختلاف ہے۔ یہ تو آج پتہ چلا کہ یہ لوگ سرے سے نماز تراویح کا انکار کرتے ہیں اور وہ بھی اقرار کے پردہ میں جو ایک منافقانہ طریقہ ہے۔ جیسا کہ منافقین کہا کرتے تھے ”**نَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ**“ (ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں) حالانکہ وہ آپ ﷺ کی رسالت کے مکرر تھے۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”**وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ**“ (بے شک منافقین البته جھوٹے ہیں)۔ الہدیث بھی بظاہر تاثر یہ دیتے ہیں کہ وہ نماز تراویح کو مانتے ہیں حالانکہ وہ صرف نماز تہجد کو مانتے ہیں اور نماز تراویح کے مکرر ہیں۔ وہ لفظ بولتے ہیں نماز تراویح کا مگر اس سے مراد لیتے ہیں نماز تہجد۔ قادریوں کی طرح مسلمانوں کو دھوکہ دینے کیلئے ایک لفظ بول دیتے ہیں مگر مراد کچھ اور لیتے ہیں، یہ بہت خطرناک طریقہ ہے۔

محقق عالم: شاہد یہا! میں آپ کی تائید کرتا ہوں کہ صراحتاً انکار کرنے سے منافق اور ترقیہ کے طور پر انکار کرنا بہت بڑا دھوکہ، فریب کاری اور بدترین قسم کا فراؤ ہے اور سب اہل باطل یہی جل کرتے ہیں۔

شاهد اقبال: مولا نا! ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ تہجد اور تراویح دو مستقل جدا نمازیں ہیں۔ دوسری طرف دعویٰ یہ ہے کہ تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے۔ آپ پہلے دعویٰ کے علمبردار ہیں جبکہ پروفیسر صاحب دوسرے دعویٰ کے مدعا ہیں۔ تو آپ اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں؟

محقق عالم: پیارے شاہد! اہل السنّت والجماعت کے اس دعویٰ پر صرف ایک دلیل ہی نہیں بلکہ الحمد للہ دلائل کا انبار ہے۔ ذرا توجہ کیجئے اور باہوش و گوش ملاحظہ کیجئے

﴿تہجد اور تراویح کے فرق پر دلائل﴾

دلیل نمبر 1: (مأخذ مشروعیت)

تہجد اور تراویح کی مشروعیت کے مأخذ جدا جدا ہیں۔ تہجد شریعت کے پہلے مأخذ یعنی قرآن کریم سے ثابت ہے (وَمِنَ الظَّلَالِ فَهُجَدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ پ ۚ ۱۲) جبکہ تراویح شریعت کے دوسرا مأخذ یعنی سنت سے ثابت ہے (وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَةً) اور قیام رمضان یعنی تراویح کا طریقہ میں (محمد ﷺ) نے جاری کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ تراویح قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک نماز کی مشروعیت قرآن سے ثابت ہے جبکہ دوسرا نماز کی مشروعیت قرآن سے ثابت نہیں بلکہ حدیث سے ثابت ہے، تو یہ دونا میں ایک کیسے ہو سکتی ہیں؟

دلیل نمبر 2: (مکان مشروعیت)

تہجد اور تراویح دونوں کی مشروعیت کی جگہ جدا ہے۔ تہجد مکہ مکرمہ میں مشروع ہوئی ہے جبکہ تراویح مدینہ منورہ میں مشروع ہوئی ہے، تو یہ دونوں نمازوں ایک کیسے۔

دلیل نمبر 3: (زمانہ مشروعیت)

تہجد بھرت سے پہلے مشروع ہوئی اور تراویح بھرت کے بعد مشروع ہوئی۔

دلیل نمبر 4: (کیفیت مشروعیت)

تہجد پہلے فرض تھی اور ایک عرصہ تک فرض رہی بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔

سعد بن اہشام رض

فُلْتُ يَا أَمَّا الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثَنِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنَ قَالَ حَدَّثَنِي عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ قَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَأُ يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلُ قَالَ قُلْتُ بَلِي قَالَتْ فَإِنَّ أَوَّلَ هَذِهِ

نَزَّلْتُ فَقَامَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اتَّفَّخَتْ
أَفْدَامُهُمْ وَجِبَسَ خَاتِمَتُهَا فِي السَّمَاءِ إِثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ نَزَّلَ آخِرُهَا فَصَارَ
قِيَامُ اللَّيلِ تَطْعُعاً بَعْدَ قَرِيبَةٍ (ابوداؤ: ج اص ۱۸۹، ۱۹۱ باب في صلوٰۃ اللیل)

سعد: میں نے کہا! اے ام المؤمنین (حضرت عائشہؓ) مجھ سے رسول اللہ ﷺ کے خلق
کے متعلق بیان کیجئے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہؓ نے فرمایا! کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ رسول اللہ ﷺ کا خلق
قرآن ہے۔

سعد: میں نے کہا! اے ام المؤمنین مجھ سے تجد کے متعلق ارشاد فرمائیے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہؓ نے دریافت فرمایا! کیا آپ سورہ یا ایہا المُزَمِّلُ نہیں پڑھتے؟

سعد: میں نے عرض کیا! جی ہاں میں سورہ یا ایہا المُزَمِّلُ پڑھتا ہوں۔

ام المؤمنین حضرت عائشہؓ طیبہ طاہرہ نے ارشاد فرمایا! اس سورہ کا ابتدائی حصہ نازل
ہوا (جس میں تجد کی فرضیت ہے) تو صحابہ کرام اتنی طویل نماز تجد پڑھتے کہ ان کے پاؤں
سوچ جاتے اور اس سورہ کا آخری حصہ بارہ ماہ تک آسمان میں رکا رہا۔ پھر بارہ ماہ کے بعد
اس کا آخری حصہ نازل ہوا تو تجد جو پہلے فرض تھی اب نفل میں بدل گئی۔

فائده: اس حدیث سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ تجد کی مشروعت قرآن
سے ثابت ہے۔ دوسرا یہ کہ تجد کی مشروعت مکہ مکرمہ میں ہوئی کیونکہ سورہ مزلہ بھرت سے
قبل مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اسی سے تجد کی مشروعت ثابت ہے۔ تیسرا یہ کہ تجد پہلے
فرض تھی اور ایک سال تک فرض رہی بعد میں سورہ مزلہ کے آخری حصہ کے نازل ہونے
کے ساتھ فرضیت منسوخ ہو گئی اور تجد نفلی نماز بن گئی جبکہ تراویح کبھی بھی فرض نہیں ہوئی ہے۔

دلیل نمبر 5: (نبی ﷺ پر فرضیت تہجد کا قول)

علماء کے ایک قول کے مطابق تہجد نبی کریم ﷺ پر فرض تھی، صرف امت کے حق میں تہجد کی فرضیت منسوخ ہوئی (زرقانی شرح موطا امام مالک: ج اص ۳۱۱) مگر تراویح آپ ﷺ پر فرض نہ تھی۔

دلیل نمبر 6: (سنۃ موکدہ وغیر موکدہ)

تہجد سنۃ غیر موکدہ ہے جیسا کہ ابھی حضرت عائشہؓ کی حدیث میں گذر اکہ تہجد پہلے فرض تھی پھر فرضیت منسوخ ہو کر نفلی نماز بن گئی۔ جبکہ تراویح سنۃ موکدہ ہے۔ چنانچہ فقہ خنبی کی معتبر کتاب الروض المریع جو سعودی عرب کے نصاب تعلیم میں داخل ہے اس کے ص ۲۵ پر لکھا ہے **وَالشَّرَاوِيعُ سُنْتُ مُؤَكَّدَةٌ** ””تراویح سنۃ موکدہ ہے۔“ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں **وَالْحَالِصُّ أَنَّ الْأَصَحَّ فِيهَا أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ** ””صحیح ترین بات یہ ہے کہ تراویح سنۃ موکدہ ہے۔“ (شرح الفتاوی: ج اص ۳۲۱)۔ ایک نماز سنۃ غیر موکدہ ہے، دوسری سنۃ موکدہ ہے یہ دونوں نمازیں ایک کیسے ہو سکتی ہیں؟ تراویح کے سنۃ موکدہ ہونے پر مذاہب اربعہ کی درج ذیل کتب ملاحظہ کیجئے۔ ابحر الرائق: ج اص ۷۱، حاشیہ فتاویٰ النوازل: ص ۹۲، حاشیہ الطحاوی: ص ۳۱۱، رد المحتار: ج ۲ ص ۳۹۳، فتاویٰ تاتار خانیہ: ج اص ۷۵، المحدث: ج اص ۸۲، حلیۃ العلماء: ج ۲ ص ۱۱۹، الاقاع للشریفینی: ج اص ۷۱، نہایۃ الزین: ج اص ۱۱۲، الفروع: ج ۲۸۱۔ لمعنی ابن قدامة: ج اص ۷۶۔ مزید حوالہ جات کیلئے ہماری کتاب ”آٹھ اور بیس تراویح کا فیصلہ“ ملاحظہ کیجئے۔

دلیل نمبر 7: (جماعت اور غیر جماعت)

تہجد میں اصل یہ ہے کہ بغیر جماعت کے پڑھی جائے مگر تراویح میں جماعت سنۃ موکدہ کفایہ ہے۔ الروضۃ المریع: ص ۲۵ میں ہے **وَالشَّرَاوِيعُ عِشْرُونَ رَكْعَةً تُفْعَلُ**

فِي جَمَاعَةِ مَعَ الْوُتُرِ تِرَاوِيْحَ بَيْنِ رَكْعَاتٍ هُوَ جَمَاعَةُ جَمَاعَةٍ لِكِنْ عَلَى وَجْهِ الْكِفَائِيَّةِ حَسَنٌ نَعْمَانٌ أَعْظَمُ الْأَعْظَامِ ابْنُ حِينِيْفَةَ كَيْاَنْقَى كِيَاَبَهُ تِرَاوِيْحَ مِنْ جَمَاعَةٍ سَنَتْ كَفَايَهُ هُوَ (كَمَا أَنَّهُ كَفَايَهُ بِهِ جَمَاعَةَ سَنَتْ كَفَايَهُ هُوَ سَبَبُ بِرِيِ الدِّرْمَهُ أَوْ كَوَنِيِ بِهِ جَمَاعَةَ سَنَتْ كَفَايَهُ هُوَ سَبَبُ بِرِيِ الدِّرْمَهُ وَبَالِ هُوَ)۔ تِرَاوِيْحَ مِنْ جَمَاعَةَ سَنَتْ عَلَى الْكِفَايَهُ هُوَ۔ اَسْ كَيْلَيْنَ مَلاَحظَهُ كَيْجَيْهُ۔ شَرَحُ التَّقَايَيْهِ: جِ اص ۳۲۱، فتاوَيِ عَالَمِيْرِي: جِ اص ۱۲۸ (مُطَبَّعَهُ قَدِيمَيِ كِتَابِ خَانَهُ)، فتاوَيِ النَّوَازِلِ: صِ ۹۲، مَرْاقِيِ الْفَلَاحِ مَعَ حَاشِيَهُ الْطَّحاوِيِ: صِ ۳۲۱، الْبَحْرِ الرَّأْقِ: جِ اص ۱۱۶

فائده : (حدیث عائشہ) حضرت عائشہؓ گیارہ رکعات والی مشہور حدیث جو تجد کے بارہ میں ہے۔ اس سے چند فرق واضح طور پر سمجھ آتے ہیں۔ اُن سے پہلے وہ حدیث ملاحظہ فرمائیں عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشَرَةِ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّهَمْ قَبْلَ أَنْ تُؤْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيِّ تَنَاهَيْ وَلَا يَنَامُ قُلْيُ (بخاری: ج اص ۱۵۲، کتاب التجد: باب قیام النبي ﷺ باللیل فی رمضان وغیره، ابو داود: صلوة ایل)

ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ رمضان میں رسول اللہ ﷺ کی نماز (تجد) کیسے ہوتی تھی؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ آپ ﷺ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات پر زیادہ نہ کرتے۔ چار رکعات پڑھتے پس ان کے حسن اور طول کے متعلق کچھ نہ پوچھ۔

پھر آپ ﷺ چار رکعات پڑھتے پس ان کے حسن اور طول کے متعلق کچھ نہ پوچھ (یعنی بہت خوبصورت اور طویل ہوتی تھیں) پھر تین رکعات پڑھتے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول آپ ﷺ تو پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں (پھر بغیر جدید وضو کے تو پڑھتے ہیں)۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ عائشہؓ بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا (یعنی نیند سے میرا دھونبیں ٹوٹا اس لئے جدید وضونبیں کرتا)

دلیل نمبر 8: (رمضان وغیر رمضان)

تجدد رمضان اور غیر رمضان میں یعنی بارہ ماہ پڑھی جاتی ہے جبکہ تراویح فقط رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ ایک نماز پورا سال پڑھی جاتی ہے دوسرا نماز سال میں صرف ایک ماہ (یعنی رمضان میں پڑھی جاتی ہے) یہ دونوں ایک نماز کیسے ہو سکتی ہیں۔ جیسے نمازِ اشراق پورے سال کی نماز ہے جبکہ نمازِ عید سال میں صرف دو مرتبہ پڑھی جاتی ہے تو یہ دونمازیں جدا چدایں۔ نمازِ ظہر ہر روز پڑھی جاتی ہے نمازِ جمعہ، ہفتہ میں صرف ایک دن (یعنی جمعہ) کے روز پڑھا جاتا ہے تو ظہر اور جمعہ دو جدا جدانامازیں ہیں۔ اسی طرح تجد سارے سال کی نماز ہے اور تراویح فقط رمضان کی نماز ہے۔ لہذا یہ بھی دو جدا جدانامازیں ہو گئی۔

دلیل نمبر 9: (چار رکعت اور دور رکعت)

حدیث عائشہؓ کے مطابق آپ ﷺ چار چار رکعات اور تین وتر پڑھتے جبکہ تراویح میں دو دور رکعات پڑھنا مسنون ہے۔ فقہاء جعلی کی معتمر کتاب الروضۃ المریع کے صفحہ ۲۵ پر ہے **تُفَعِّلُ رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ** بیس تراویح دو، دو رکعات کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ اس پر مزید حوالہ جات مذاہب اربعہ کے بیان میں ملاحظہ کیجئے۔

دلیل نمبر 10: (نیند کا وقفہ)

حدیث عائشہؓ سے نبی پاک ﷺ کا تجد اور وتروں کے درمیان سونا ثابت ہے مگر

تراویح اور وتروں کے درمیان سونا ثابت نہیں کیونکہ حدیث میں ہے **إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْتِ فِرَاشَةً** یعنی جب ماہ رمضان شروع ہو جاتا تو آپ ﷺ رمضان گزرنے تک بستر پر قدم نہ رکھتے۔ نماز تہجد میں نوافل تہجد اور وتروں کے درمیان سونا ثابت گر تراویح اور وتروں کے درمیان سونا ثابت نہیں تو یہ دونمازیں ایک کیسے؟

دلیل نمبر 11: (حدیث من قام)

تراویح والی حدیث مَنْ قَامَ رَمَضَانَ — الخ کو کسی محدث نے تہجد کے باب میں ذکر نہیں کیا۔ اگر تراویح اور تہجد ایک نماز ہوتی تو فضیلت تراویح کی اس حدیث کو تہجد کے باب میں بھی ذکر کیا جاتا۔ حالانکہ اس حدیث کو تراویح کے باب میں ذکر کیا جاتا ہے، تہجد کے باب میں ذکر نہیں کیا جاتا۔ معلوم ہوا کہ دونوں نمازیں جدا ہیں۔

دلیل نمبر 12: (ترغیب جماعت)

تہجد با جماعت کی تعریف و ترغیب آخر خضرت ﷺ سے ثابت نہیں لیکن تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی تعریف و ترغیب رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا نَاسٌ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا هُوَ لَأَءِ قَيْلَ هُوَ لَأَءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأَبْيَ بُنْ كَعْبٍ يُصَلِّي بِهِمْ فَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَوَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابُوا أَوْ نُعْمَمَ مَا صَنَعُوا

(قیام رمضان للمرزوqi: ص ۱۵۵)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ (جرہ) سے نکلے تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ ماہ رمضان میں کچھ لوگ مسجد کے ایک گوشے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے

پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا! یہ ایسے لوگ ہیں کہ قرآن ان کو یاد نہیں اور ابی بن کعبؓ ان کو نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ لوگ ابی بن کعبؓ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ سن کر فرمایا! انہوں نے درست کیا۔ یا یوں فرمایا انہوں نے اچھا کام کیا ہے۔

دلیل نمبر 13: (اہتمام جماعت کثیرہ)

نماز تجد میں جماعت کثیرہ کو شامل کرنے کا اہتمام آپ ﷺ سے ثابت نہیں لیکن نماز تراویح کو جماعت کثیرہ کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام آپ ﷺ سے ثابت ہے۔ اس سلسلہ میں دو حدیثیں ملاحظہ کیجئے۔

1- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ أَوْ زَاعِمًا..... الخ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ لوگ رمضان شریف کی ایک رات مسجد نبوی میں متفرق جماعتیں بنا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جن لوگوں کو قرآن کا کچھ حصہ یاد تھا وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ کسی کے ساتھ پانچ آدمی ہیں کسی کے ساتھ چھ ہیں اور کسی کے پیچھے اس سے کم اور کسی کے پیچھے اس سے بھی زیادہ اور وہ ان قرآن خواں لوگوں کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک رات مجھے حکم دیا کہ میں حجرہ کے دروازے پر چٹائی لٹکا دوں۔ چنانچہ میں نے چٹائی لٹکا دی۔ پس رسول اللہ ﷺ نے ایک دفعہ اس کی نماز کے بعد حجرہ سے باہر تشریف لائے اُس وقت مسجد میں جتنے لوگ موجود تھے سب آپ ﷺ کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ آپ ﷺ نے اُن کورات کے وقت دریک نماز پڑھائی

(قیام رمضان للمرزوqi: ص ۱۵۳)

2- حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صمنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ... الخ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رمضان میں

روزے رکھے آپ ﷺ نے ہمیں تراویح نہ پڑھائی تھی کہ جب سات راتیں باقی رہ گئیں تو رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ۲۳ اور ۲۵ کی رات کو نماز پڑھائی، پھر ۲۷ کی رات کو اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور آپ ﷺ نے طویل نماز پڑھائی۔ (ایسی وجہ سے بعد میں خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیس تراویح باجماعت کا مستقلًا اہتمام کیا اور اس سنت کو دا Vinci طور پر جاری کیا جو آج تک جاری ہے)

دلیل نمبر 14: (ساری رات قیام)

تہجد میں ساری رات قیام کرنا آپ ﷺ سے ثابت نہیں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں **لَا أَعْلَمُ نَبِيًّا اللَّهِ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ غَيْرُ رَمَضَانَ** (نسائی: ج اص ۳۲۱) مجھے علم نہیں کہ نبی کریم ﷺ نے رمضان کے علاوہ دوسری کسی رات کو صبح تک ساری رات قیام فرمایا ہو۔ اسی طرح سعد بن حشام کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا **لَا أَعْلَمُ نَبِيًّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ غَيْرِ رَمَضَانَ فَانْكَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَدَّثَنِي حَدِيثُهَا فَقَالَ صَدَقْتُ** (قیام اللیل للمرزوqi: ص ۸۵)

میں نبی کریم ﷺ کے بارے میں یہ نہیں جانتی کہ آپ ﷺ نے کسی ایک رات میں بھی صبح تک ساری رات نماز پڑھی ہو سائے رمضان کے۔ میں نے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے پاس جا کر یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا حضرت عائشہؓ صحیح کہتی ہیں۔

قرآن کریم میں حضور ﷺ کی تہجد کے متعلق ہے **إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذْنِي مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَلُثُلَّةً وَطَافِقَةً مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ بَشَّكَ تِيَارَبَ جَانِتَاهُ كَأَنَّ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی ایک جماعت (نماز تہجد میں) کبھی رات کی دو تھائی کبھی نصف رات اور کبھی ایک تھائی قیام کرتی ہے۔ امام محمد بن فضیل رحمہ اللہ یہ آیت لکھ کر فرماتے ہیں **فَهَلْذَا نَوْمٌ وَقِيَامٌ يَنِيدُ بَھِيْ ہے اور قیام بھی ہے (قیام اللیل: ص ۲۰)** جبکہ آپ ﷺ رمضان**

میں ساری رات قیام فرماتے تھی کہ کربستر کے ساتھ نہ لگاتے جب نماز تہجد اور نماز تراویح میں معمول جدا جدابہ کہ تراویح میں ساری رات صبح تک قیام فرماتے اور تہجد میں کبھی بھی صبح تک ساری رات قیام نہیں کیا تو یہ دو نمازوں میں ایک کیسے ہو گئیں؟

دلیل نمبر 15: (پورا قرآن کریم ختم کرنا)

تراویح میں کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن کریم ختم کرنا خلفاء راشدین کی سنت ہے جبکہ تہجد میں قرآن کی کوئی مقدار متعین نہیں۔ قرآن کریم میں ہے ﴿فَاقْرَأُوهُ مَا تَسْتَرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (نماز تہجد میں) قرآن سے جو آسان ہو وہ پڑھو۔

دلیل نمبر 16: (تعین رکعات)

نماز تہجد کی رکعات متعین نہیں بلکہ وقت کی نجاشی اور اپنی ہمت کے مطابق وتروں کے علاوہ دور رکعت سے دس رکعت تک پڑھ سکتے ہیں یعنی ۲۰-۸-۶-۴-۱۰۔ مگر تراویح کی تعداد فریقین کے نزدیک متعین ہے ۲۰ یا ۸۔ اہل السنّت والجماعت کے نزدیک میں رکعات ہیں اور غیر مقلدین کے نزدیک آٹھ ہیں۔

دلیل نمبر 17: (وتروں کی جماعت)

تراویح کے بعد وتروں کا جماعت کے ساتھ پڑھنا خلفائے راشدین کی سنت ہے جبکہ تہجد کے بعد وتروں کی جماعت کا سنت ہونا ثابت نہیں۔

دلیل نمبر 18: (شعراء اسلام)

نماز تراویح شعراء اسلام میں سے ہے (نیل الاول طار: ج ۲۹۵ ص ۲، الدیبان: ج ۲ ص ۳۸۵، شرح ابو داؤد للعینی بیان ۲۷۵، شرح سیوطی علی مسلم: ج ۲ ص ۳۸۵، شرح نووی علی مسلم: ج ۳ ص ۱۰۱، ۱۲۸، ۱۳۲، مرقاۃ المفاتیح: ج ۲ ص ۳۱۲، ۳۱۶، احیاء علوم

الدین: ج ۱ ص ۳۹۰) المبدع شرح المقع (ج ۲ ص ۱۹۔ فقه حنبی) میں ہے وہی سُنّۃ سَنَّهَا النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلَیَسْتُ مُحَدَّثَةً لِعُمَرَ وَهِيَ مِنْ أَعْلَامِ الدِّینِ الظَّاهِرَةِ اور تراویح سنت ہے جسکو خود نبی پاک ﷺ نے جاری کیا ہے اور یہ حضرت عمرؓ کی جاری کردہ سنت نہیں ہے اور یہ دین کی علامات ظاہرہ میں سے ہے جبکہ تہجد شعائرِ اسلام میں سے نہیں ہے۔

دلیل نمبر ۱۹: (وقت جدا جدا)

پانچ فرض نمازیں پانچ اس لئے بنی ہیں کہ ہر نماز کا وقت دوسری نماز سے جدا ہے۔ چنانچہ فقهاء اور محدثین حضرات نے ہر نماز کا وقت جدا جدا تحریر کیا ہے۔ اسی طرح تہجد اور اشراق دو جدا جدا نمازیں اس لئے ہیں کہ ہر ایک کا وقت دوسری نماز سے جدا ہے۔ نماز تہجد کا وقت نصف رات کے بعد سے طلوع فجر تک ہے اور نماز اشراق کا وقت طلوع شمس کے بعد ہے۔ معلوم ہوا کہ وقت کا جدا جدا ہونا نمازوں کے جدا ہونے کی دلیل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تراویح اور تہجد کا وقت ایک ہے یا علیحدہ علیحدہ ہے؟ چونکہ ان دونوں نمازوں کا وقت جدا جدا ہے اس لئے یہ دونوں نمازیں بھی جدا جدا ہو گی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نماز تہجد کا وقت نصف رات کے بعد ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَمُّ أَوَكَهُ وَيَقُومُ آخِرَةً (بخاری: ج ۱ ص ۱۵۲) رسول اللہ ﷺ اول شب میں نیند کرتے اور رات کے اخیر میں تہجد پڑھتے۔ غیر مقلدین علماء نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ نماز تہجد اور نماز تراویح کا وقت جدا جدا ہے۔ فتاویٰ علماء حدیث میں ہے تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد اول رات کا ہے اور تہجد کا آخر رات کا۔ (ج ۲ ص ۲۵۱) نیز فرماتے جو شخص رمضان میں عشاء کے وقت نماز تراویح پڑھ لے وہ آخر وقت میں تہجد پڑھ سکتا ہے۔ تہجد کا وقت ہی صبح سے پہلے کا ہے، اول شب میں تہجد نہیں ہوتی۔

(فتاویٰ علماء حدیث: ج ۲ ص ۳۳۱)

نیز فرماتے ہیں اگر تراویح پہلے وقت میں پڑھے تو صرف تراویح ہے پچھلے وقت میں پڑھے تو تہجد کے قائم مقام ہوتی ہے۔ (فتاویٰ علماء حدیث: ج ۶ ص ۲۲۹)

دلیل نمبر 20: (نام جدا جدا)

پانچ فرض نمازیں، اسی طرح نماز اشراق، اوایم، نماز تہجد وغیرہ کے جدا جدا نام اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نمازیں بھی جدا جدا ہیں۔ سو جب ان دونمازوں کے نام جدا جدا ہیں، ایک کا نام نماز تراویح ہے دوسری کا نام نماز تہجد ہے، ایک کا نام قیام رمضان دوسری کا قیام اللیل ہے تو یہ دونمازوں بھی جدا جدا ہو گئی۔

دلیل نمبر 21: (باب جدا جدا)

محمد شین حضرات نے تہجد اور تراویح کے جدا جدا باب قائم کئے ہیں جو ان کے الگ الگ نماز ہونے کی دلیل ہے اور اگر یہ دونوں نمازوں ایک ہیں تو ہر ایک کے جدا جدا باب قائم کرنے کی کیا ضرورت؟ کتب حدیث میں دونوں نمازوں کے جدا جدا باب بحوالہ ملاحظہ کیجئے۔

نام کتاب	باب تراویح	باب تہجد
صحیح بخاری	باب فضل من قام رمضان: ج اص ۱۵۱	باب فضل قیام اللیل: ج اص ۲۶۹
صحیح مسلم	باب الترغیب فی قیام رمضان و ہوا تراویح: ج اص ۲۵۹	باب صلوٰۃ اللیل: ج اص ۲۵۳
سنن ابی داؤد	باب قیام شہر رمضان: ج اص ۱۹۶	باب فی صلوٰۃ اللیل: ج اص ۱۸۸
سنن ترمذی	باب ماجاء فی قیام شہر رمضان ج اص ۱۲۶	باب فی فضل صلوٰۃ اللیل: ج اص ۹۸

ثواب من قام رمضان و صام... اخ ج اص ۲۰۷	كتاب قيام الليل: ج اص ۲۳۷	سنن نسائي
باب ما جاء في قيام شهر رمضان: ص ۹۷	باب ما جاء في قيام الليل: ص ۹۷	سنن ابن ماجه
باب في قيام رمضان: ص ۹۷	باب في صلوة الليل: ص ۹۹	موطأ امام مالك
باب قيام شهر رمضان: ص ۱۳۱	باب صلوة الليل: ص ۱۱۹	موطأ امام محمد
باب قيام شهر رمضان: ج اص ۱۱۲	باب صلوة الليل: ج اص ۱۰۵	مشكوة شريف
باب استجابة قيام رمضان وهو التراتيح: ص ۳۶۷	باب فضل قيام الليل: ص ۳۶۲	رياض الصالحين
فصل في التراتيح: ج ۵ ص ۱۰۷	فصل في قيام الليل: ج ۵ ص ۱۱۲	صحح ابن حبان
باب قيام رمضان: ج ۳ ص ۲۰۱	باب في صلوة الليل: ج ۲ ص ۵۱۹	مجموع الفتاوى
باب في قيام شهر رمضان: ج ۲ ص ۳۹۱	باب في قيام الليل: ج ۲ ص ۳۹۹	سنن كبرى امام بيهقي
قيام رمضان والتراتيح وغير ذلك ج اص ۲۰۶	صلوة الليل: ج اص ۲۰۳	جمع الفتاوى
قيام رمضان: ص ۱۵۰ تا ۱۷۸	قيام الليل: ص ۲ تا ص ۱۳۹	مختصر قيام الليل لمرزوقي
قيام رمضان: ص ۱۵۲	صلوة الطوع: ص ۸۳	بلوغ المرام

محمد شین حضرات کے تہجد اور تراویح کے علیحدہ علیحدہ باب قائم کرنے سے معلوم ہوا کہ ان حضرات کے نزدیک بھی تہجد اور تراویح دو علیحدہ علیحدہ نمازیں ہیں ورنہ ان کے الگ الگ باب قائم نہ کرتے۔

دلیل نمبر 22: (رمضان کی شرط)

عہد نبوی میں رمضان کا چاند نظر نہ آیا فَارَادُوا آنَ لَا يَصُومُوا وَلَا يَقُومُوا تو انہوں نے روزہ نہ رکھنے اور قیام نہ کرنے (یعنی تراویح نہ پڑھنے) کا ارادہ کر لیا۔ اچانک وادی حرہ سے ایک اُغْرَابِیٰ (دیہاتی آدمی) نے حاضرِ خدمت ہو کر چاند لیکھنے کی شہادت دی۔ چنانچہ اُس کے ایمان و اعتقاد کی تصدیق کرنے کے بعد نبی کریم ﷺ کے حکم پر حضرت بلاں رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا آنَ يَصُومُوا وَآنَ يَقُومُوا لوگ روزہ رکھو اور تراویح پڑھو۔
(دارقطنی: ج ۲ ص ۱۵۹)

معلوم ہوا کہ نماز تراویح ماہ رمضان کے چاند نظر آنے کے ساتھ مشروط ہے جبکہ تہجد ہالی رمضان کے ساتھ مشروط نہیں، وہ سارا سال پڑھی جاتی ہے۔

دلیل نمبر 23: (مسجد میں جماعت)

علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں تراویح اور تہجد کے درمیان وقت اور کیفیت کے اختبار سے فرق تھا۔ **الترَّاوِيْحُ تَكُونُ بِالْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ بِخَلَافِ التَّهَجُّدِ** تراویح مسجد میں جماعت کے ساتھ ہوتی تھی جبکہ تہجد اس طرح نہ تھی وَإِنَّ الشُّرُوعَ فِي التَّرَاوِيْحِ يَكُونُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَفِي التَّهَجُّدِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ تراویح رات کے اول حصہ میں شروع کرتے جبکہ تہجد رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی (العرف الشذی: ص ۱۶۶)

دلیل نمبر 24: (تہجد بعد اذانوم)

تراویح نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے جبکہ تہجد نیند سے اٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں وَالْتَّهُجُّدُ بَعْدَ النَّوْمِ (تفسیر ابن عباس: ص ۱۸۱) اور تہجد نیند کے بعد پڑھی جاتی ہے۔

مسجد چینیاں والی کے غیر مقلد خطیب مولوی عبداللہ چکڑالوی نے نماز تراویح کا انکار کیا اس پر انہوں نے ایک رسالہ بھی لکھا ”البيان لفصح لاثبات كراهة التراویح“، موصوف چکڑالوی صاحب نے انکار تراویح کی بنیاد اسی فکر پر رکھی کہ تراویح اور تہجد دونوں ایک نماز ہیں، الگ الگ نمازنہیں ہیں۔ غیر مقلدین کے شیخ الاسلام مولانا شاہ اللہ امرتسری نے چکڑالوی صاحب کے عقیدے کا پہلے خلاصہ لکھا پھر اس کی تردید کی۔ چنانچہ شیخ الاسلام موصوف نے چکڑالوی کے مذهب کا خلاصہ یہ لکھا ہے کہ پہلے وقت کی نماز تراویح اور پچھلے وقت کی نماز تہجد ایک ہی ہیں دونوں یہی تراویح جو اول وقت میں پڑھی جاتی ہے تہجد کی نماز ہے اور کوئی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دعویٰ پر دلیل کوئی نہیں بلکہ اس کے خلاف دلیل موجود ہے کیونکہ تہجد کے معنی نیند سے اٹھ کر نماز پڑھنا۔ قاموں میں ہے تہجد استيقظ (تہجد کے معنی ہیں وہ جاگ گیا) حضرت عائشہؓ کی حدیث سے جو اور پر درج ہے یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ اول شب کی نماز اور آخر شب کی نماز ایک ہے (اب الحدیث کامہب: ص ۲۹)

دلیل نمبر 25: (قیام اللیل اور قیام رمضان)

تہجد کا دوسرا نام قیام اللیل ہے اور تراویح کا نام قیام رمضان ہے۔ اور غیر مقلد نواب صدیق حسن خان نے کہا ہے کہ قیام اللیل اور قیام رمضان دو جدا گا نمازوں ہیں۔ چنانچہ موصوف لکھتے ہیں۔ وَأَمَّا قِيَامُ اللَّيْلِ فَهُوَ غَيْرُ قِيَامِ رَمَضَانَ (نزل الابرار بالعلم الماثور من الادعية والاذکار: ص ۳۰۲) قیام اللیل (یعنی تہجد) قیام رمضان (تراویح) کا غیر ہے۔

﴿رمضان میں تراویح پڑھنے کے بعد اخیر رات میں جدا تہجد کا پڑھنا اس بات کی دلیل

ماہِ رمضان میں تراویح پڑھنے کے بعد اخیر رات میں جدا تہجد کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تراویح اور تہجد دونمازیں جدا جدایاں اور اگر یہ دونوں نمازوں میں ایک ہیں تو پھر تراویح پڑھنے کے ساتھ تہجد بھی پڑھی گئی، دوبارہ اخیر رات میں تہجد پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ نماز فرض ہو یا سنت ایک وقت میں دو دفعہ نہیں پڑھی جاتی۔ ظہر کے وقت ظہر ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے، دو مرتبہ نہیں پڑھی جاتی۔ نماز اشراق، اشراق کے وقت میں ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے دو دفعہ نہیں پڑھی جاتی۔ تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد سے صحیح صادق تک ہے۔ جب رات کو عشاء کے بعد اول وقت میں تراویح پڑھی گئی تو غیر مقلدین کے نظریہ کے $\frac{1}{26}$ مطابق تہجد بھی پڑھی گئی۔ اب رات کے اخیر میں دوبارہ تہجد پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ دونمازیں جدا جدایاں، اسلئے تراویح کے بعد تہجد پڑھنے کے جتنے دلائل پیش ہونگے وہ سب تراویح و تہجد کے دو علیحدہ علیحدہ نمازوں ہونے کے دلائل ہیں۔

دلیل نمبر:

حدیث عائشہؓ مَا كَانَ يَزِيدُ جُو چِحْچِيًّا مِنْ أَوْ تَرْجِمَةِ سَمِيتٍ لَكُلُّهُ جَاقِلٌ ہے، اس حدیث عائشہؓ میں رمضان المبارک کی تہجد کے متعلق سوال ہے کیونکہ ابو سلمہؓ کوشہ ہوا کہ شاید رمضان میں نبی کریم ﷺ کی تہجد کی رکعتیں زیادہ کر دیتے ہوئے، اس لیے سوال کیا۔ حضرت عائشہؓ نے جواب دیا کہ آپ ﷺ کی تہجد کی رکعات رمضان اور غیر رمضان میں برابر ہوتی تھیں اور ساتھ ساتھ نماز کی کیفیت بھی بتا دی۔ خود اس حدیث میں چند قرآنیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال وجواب تہجد کے متعلق تھا تراویح کے متعلق نہ تھا (۱) رمضان اور غیر

رمضان میں نماز تہجد پڑھی جاتی ہے جبکہ تراویح صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔

(۲) آپ ﷺ چار چار رکعات پڑھتے جبکہ تراویح دو دو رکعات پڑھنا مسنون ہے۔

(۳) آپ ﷺ اور تو روں سے پہلے سو جاتے جبکہ تراویح اور تو روں کے درمیان سونا آپ ﷺ سے ثابت نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ ابو سلمہؓ کا سوال رمضان میں نماز تہجد کے متعلق تھا۔ اسی لئے حضرت عائشہؓ نے بھی جواب میں نماز تہجد ہی کا ذکر فرمایا ہے (۲) یہ بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ نبی کریم ﷺ باقی مہینوں سے ماہ رمضان میں عبادت زیادہ کرتے تھے۔

ایک حدیث میں ہے *إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ تَغْيِيرَأُونَهُ وَكَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَابْتَهَلَ فِي الْدُّعَاءِ وَآشْفَقَ مِنْهُ* (شعب الایمان للیہیقی: ج ۳۰ ص ۳۱۰، الترغیب لابی القاسم: ج ۲ ص ۳۶۳، کنز العمال: حدیث نمبر ۱۸۰۶) جب رمضان شروع ہوتا تو نبی کریم ﷺ کا رنگ بدل جاتا، نماز زیادہ ہو جاتی، دعا میں عاجزی بڑھ جاتی اور خوف خدا زیادہ ہو جاتا۔ ایک روایت میں ہے *إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ شَدَّ مِثْرَرَةً ثُمَّ لَمْ يَأْتِ فِرَاشَةً حَتَّى يَسْلَخَ* (صحیح ابن خزیم: ج ۳ ص ۳۲۲، شعب الایمان للیہیقی: ج ۳۰ ص ۳۱۰، زجاجۃ المصائب: ج ۲ ص ۳۶۲) جب رمضان مبارک داخل ہوتا تو نبی کریم ﷺ اپنا تہبید مضبوط کر لیتے اور ماہ رمضان گزرنے تک اپنے بستر پر نہ آتے اور جب ماہ مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ ﷺ کی عبادت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت ہے *يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ وَآخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ* (صحیح مسلم: ج ۱ ص ۳۷۲) نبی کریم ﷺ آخری عشرہ میں (عبادت میں) جتنی کوشش کرتے اتنی دوسرے دنوں میں نہ کرتے۔ ایک اور روایت میں ہے *إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِثْرَرَةً وَأَحْيَ الْيَلَةَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ* (بخاری: ج ۱ ص ۳۷۱، مسلم: ج ۱ ص ۳۷۲) جب آخری عشرہ آتا تو آپ ﷺ اپنا تہبید مضبوط کر لیتے اور ساری رات عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی

جگاتے۔ ان روایات میں کثرتِ عبادت سے رکعتوں کی تعداد اور کیفیت دونوں کے اعتبار سے زیادتی مراد ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ ﷺ رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ نماز پڑھتے باعتبار رکعت کے بھی اور باعتبار خشوع کے بھی (فتاویٰ عزیزیہ: ص ۲۵۰) اور غیر مقلد نواب صدیق حسین خان فرماتے ہیں کہ احادیث صحیح میں (رمضان کی اضافی) رکعات کی تعین نہیں آئی البتہ حدیث يَجْتَهَدُ فِي الْعَشْرِ الْأُوَّلِ خَرَّ مَالًا يَجْتَهَدُ فِي غَيْرِهِ سے معلوم ہوتا ہے ان عَدَدَةَ كَانَ كَثِيرًا یعنی رکعات کی تعداد زیادہ ہوتی تھی (الاتفاق الرنجی: ص ۶۱)۔ اگر حضرت عائشہؓ کی گیارہ رکعات والی حدیث کامل و مصدق تراویح کو بنایا جائے اور نظریہ بھی یہ ہو کہ تراویح اور تجد ایک نماز ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی رمضان اور غیر رمضان کی نماز برابر ہوتی تھی یعنی صرف گیارہ رکعات پڑھتے تھے، اس سے زیادہ نہ پڑھتے تھے اور یہ بات کثرتِ عبادت والی ذکورہ بالا احادیث کے خلاف ہے اس لئے یہ درست نہیں۔ اور اگر حدیث عائشہؓ کامل نماز تجد ہوا اور تراویح و تجد جدا جدا نماز ہوں تو مطلب یہ ہو گا کہ رسول اللہ ﷺ رمضان اور غیر رمضان میں ^{2/2} نماز تجد گیارہ رکعات پڑھتے تھے مگر رمضان میں تجد کے علاوہ نماز تراویح کی رکعات کا اضافہ بھی ہو جاتا۔ رمضان میں کثرتِ عبادت والی احادیث کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اس لحاظ سے حدیث عائشہؓ کامل نماز تجد ہے یعنی رسول اللہ ﷺ رمضان میں نماز تراویح کے علاوہ نماز تجد بھی گیارہ رکعات پڑھتے تھے۔

دلیل نمبر:

حضرت عائشہؓ کی حدیث بطریق ابو سلمہؓ چو گیارہ رکعات تجد کے بارے میں ہے اس میں ہے کہ ابو سلمہؓ نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کیف کانٹھ صلوا رَسُولِ اللہِ

علیٰ اللہِ عَزَّ وَجَلَّ فِي رَمَضَانَ (رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کی رمضان میں نماز کیسے ہوتی تھی) اس کی علامہ یہ جو بڑی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کیف گائٹ صلوٰۃ رَسُولِ اللہِ عَلِیٰ اللہِ عَزَّ وَجَلَّ فِی رَمَضَانَ آئی فِی لَیَالِیٰ وَفَقَ الْتَّهَجِیدِ زِیادَۃً عَلَیٰ مَا صَلَّاَ بَعْدَ الْعِشَاءِ مِنَ التَّرَاوِیحِ۔ (المواهب اللدنیہ حاشیہ علی الشماکل الحمدیہ ص ۱۳۲) یعنی ابو سلمہ کا مقصد یہ تھا نمازِ عشاء کے بعد جو نمازِ تراویح پڑھی جاتی ہے اس سے زائد نماز جو تہجد کے وقت میں پڑھی جاتی ہے وہ کیسے تھی؟ جواب میں حضرت عائشہؓ نے تراویح کے علاوہ تہجد کا انکار نہیں کیا، نہ یہ فرمایا کہ آپ ﷺ عشاء کے بعد اول وقت میں جو تراویح پڑھتے تھے وہی آپ ﷺ کی تہجد تھی بلکہ حضرت عائشہؓ نے تہجد کے وقت کی نماز تہجد کی رکعتات کی تعداد اور کیفیت بتا دی کہ جیسے آپ ﷺ غیر رمضان میں تہجد گیا رہ رکعتات پڑھتے تھے رمضان میں بھی تہجد گیا رہ رکعتات ہی پڑھتے تھے، اس کیفیت کے ساتھ کہ چار چار رکعتات پڑھتے جو خوبصورت اور طویل ہوتی تھیں، اس کے بعد رمضان اور غیر رمضان میں تین و تر پڑھتے۔

علامہ یہ جو بڑی صراحة و تحقیق کے مطابق ابو سلمہؓ کا یہ سوال اور حضرت عائشہؓ کا جواب تراویح کے متعلق نہ تھا بلکہ تراویح سے زائد نماز جو تہجد کے وقت میں پڑھی جاتی ہے اس کے متعلق ہے اور وہ نماز تہجد ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کی تراویح کے ^{3/28} علاوہ تہجد کے وقت میں نماز تہجد بھی پڑھتے تھے۔ اور اگر کبھی تراویح کو ہی اخیر رات تک طول دے دیا تو پھر نصف رات کے بعد والی رکعتات میں تراویح کے علاوہ تہجد کی جدانیت کر لیتے ہوں گے، تو دونوں نمازوں کی نیت کی وجہ سے دونوں کی فضیلت و ثواب حاصل ہو جاتا۔

دلیل نمبر:

مالا بد منہ کے حاشیہ میں ہے کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”وآنچہ مروی

شده ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احادی عشرۃ رکعۃ مراد ازاں نماز تہجد است
رمضان وغیرہ برابر بود و آں را صلوٰۃ اللیل می گفتند اما تراویح غیر آنست کہ در عرف شان
بقيام رمضان مسکی بود، (مالا بد منہ مص ۸۷ حاشیہ نمبر ۳)

اور جو کچھ حضرت عائشہؓ کی گیارہ رکعات والی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ رمضان
وغیرہ رمضان میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، اس سے نماز تہجد مراد ہے کہ وہ
رمضان وغیرہ رمضان میں برابر ہوتی ہے۔ اس کو صلوٰۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے لیکن نماز تراویح
وہ نماز تہجد کا $\frac{4}{29}$ غیرہ۔ عرف میں اس کو قیامِ رمضان کا نام دیا جاتا ہے۔

پس شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق حدیث عائشہؓ میں نماز تہجد
مراد ہے جو نماز تراویح کے علاوہ ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ رمضان میں رسول اللہ ﷺ نماز
تراویح کے علاوہ نماز تہجد گیارہ رکعات پڑھتے تھے۔

دلیل نمبر:

امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری: حاص ۱۵۲ اپر باب قائم کیا ہے باب قیام
النبي ﷺ باللیل فی رمضان وغیرہ۔ لیل نمبر ۲۵ میں ابھی گذر رہے "قیام اللیل"
نماز تہجد کا نام ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ رمضان اور غیرہ رمضان میں قیام اللیل کا
عنوان قائم کر کے اشارہ کیا ہے کہ رمضان میں تراویح کے علاوہ تہجد بھی پڑھی جائے۔
نیز امام بخاری رحمہ اللہ علیہ حضرت عائشہؓ کی اس حدیث کو تہجد کے باب میں لا کر اشارہ کیا ہے کہ
اس حدیث کا تعلق نماز تہجد کے ساتھ ہے پھر قیامِ رمضان کے باب میں دوبارہ لا کر اشارہ کیا
ہے کہ رمضان میں صرف تراویح پر اکتفانہ کیا جائے بلکہ تراویح اور تہجد دونوں نمازوں پڑھی
جائیں تاکہ دونوں کی فضیلت اور دونوں کا ثواب حاصل کیا جائے۔ نیز امام محمد رحمہ اللہ نے
بھی حضرت عائشہؓ کی مذکورہ بالا حدیث کو قیامِ رمضان کے باب میں ذکر کر کے اس طرف

کہ رمضان میں تراویح کے علاوہ تہجد بھی پڑھی جائے لیکن قادریانیوں اور غیر مقلدین نے ”تراویح اور تہجد ایک نماز“ کا نظریہ ایجاد کر کے کتنے مسلمانوں کو رمضان المبارک جیسے عظیم مہینہ میں تہجد جیسی عظیم عبادت سے محروم کر دیا ہے۔

دليل نمبر:

اس دلیل کی وضاحت سے پہلے حضور ﷺ کی ۱۳ رکعتات تہجد کی روایات ملاحظہ فرمائیں

عن ابن عباس قال كان صلواه النبي صلى الله عليه وسلم ثالث عشرة ركعة يعني بالليل (بخاري: ج 153) حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رواية هي كبني كريم الله كنماز تهجى 13 ركعات تهيى۔ بخاري میں یہ روایت مختصر ہے لیکن محدث محمد بن نصر مروی چھٹا ہوں حدیث کو تفصیل نقش کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الله بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے باپ حضرت عباس نے مجھے نماز عشاء کے بعد اپنے ایک کام کیلئے رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا۔ جب میں رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچا تو آپ ﷺ نے مجھے کہا ای بنت عندهنا هذہ اللیلة اے پیارے بیٹے یہ رات ہمارے پاس گزارو۔ اور اس رات رسول اللہ ﷺ حضرت میمونہؓ کے گھر میں تھے۔ چنانچہ میں نے یہ رات رسول اللہ ﷺ اور اپنی خالہ میمونہؓ کے ہاں گزاری۔ حضور ﷺ اور حضرت میمونہؓ تو اپنے تکیہ پر سو گئے جو کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا اور میں ان کے سر کی جانب تکیہ کے پاس عرضًا سو گیا۔ رسول اللہ ﷺ رات کو اٹھئے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی پھر یہ آیات تلاوت فرمائیں۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سَيِّئَاتٌ تَكَبُّرٌ آپ لیٹ گئے۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد دبارہ اٹھئے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے یہی آیات تلاوت فرمائیں۔ پھر اپنے لکائے ہوئے مشکنہ سے برتن میں پانی لیا اور کامل طریقے سے

وضو کیا۔ پھر اپنی حضرتی چادر اوڑھی، چادر اوڑھ کر کرے میں داخل ہوئے اور کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں بھی انھا مشکیزے سے پانی لیا اور جیسے میں نے آپ ﷺ کو ضوکرتے دیکھا اُسی طرح وضو کیا پھر میں بھی کمرے میں گیا اور حضور ﷺ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ ﷺ نے مجھے اپنے پیچھے سے گھما کر اپنی دائیں طرف کھڑا کیا، آپ ﷺ نے مجھے منوس کرنے کیلئے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے دائیں کان کو مردرا پھر اس کو مسلا۔

ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلَّكَ عَشَرَةَ رَكْعَةً مِنَ الظَّلَلِ
پھر رسول اللہ ﷺ نے ۱۳ اركعات نماز پڑھی (محضر قیام اللیل للامام: ص ۸۲، ۸۳)

فائدہ نمبر 1:

(۱) مذکورہ بالا حدیث میں ۱۳ اركعات نماز تہجد اور وتروں کا جو ذکر ہے وہ ماہ رمضان کے علاوہ ہے کیونکہ ماہ رمضان میں تو نبی کریم ﷺ بستر کے ساتھ کرنے لگاتے تھے جب کہ اس حدیث میں یہوی کے ساتھ ایک ہی تکیہ پر سونے کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان کے علاوہ نماز تہجد پڑھنے کا بیان ہے۔

(۲) عن زيد بن خالد الجهمي رضي الله عنه قال لا رفقاً صلوة رسوالله صل الله عليه وسلم فتو سدت عتبة أو قسطاطة فصل رسوالله صل الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صل ركعتين طويلتين طويلتين ثم صل ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صل ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صل ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صل ركعتين دون اللتين قبلهما ثم اوتر فالك ذلك عشرة ركعة (محضر قیام اللیل: ص ۸۳)

حضرت زید بن خالد جهمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ

میں ضرور نبی کریم ﷺ کی نماز تہجد دیکھو گا۔ سو میں نے آپ ﷺ کی چکھت یا آپ ﷺ کے خیمہ کو تکیہ بنالیا۔ رسول اللہ ﷺ نے دو ہلکی رکعتیں پڑھیں، پھر دو رکعتیں بہت طویل پڑھیں، پھر دو رکعتیں پڑھیں جو ان دور کعت سے ہلکی تھیں، پھر دو رکعتیں پڑھیں جو ان دو رکعت سے ہلکی تھیں، پھر دو رکعتیں پڑھیں جو ان دور کعت سے ہلکی تھیں پھر دو رکعت پڑھیں جو ان دور کعت سے ہلکی تھیں، (ان کے ساتھ ایک رکعت اور ملا کر) ان کو وتر بنایا۔ پس یہ تیرہ (۱۳) رکعات ہو گئیں۔

فائدہ نمبر 2:

ثم اوتر کا یہ مطلب کہ آخری دور کعت کے ساتھ ایک رکعت ملا کر ان کو وتر بانا اس کی دوسری حدیث میں صراحة موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةُ اللَّيْلِ مُثْنَىٰ فَإِذَا أَرْدَقْتَ أَنْ تُنْصَرِفَ فَارْكِعْ رَكْعَةً تُوْتِرَ لَكَ مَا قُدْصَلَيْتَ قَالَ الْقَاسِمُ وَرَأَيْتَا اَنَاسًا مُنْدُ اُدْرَكَنَا يُوْتِرُونَ بِغَلِيلٍ (بخاری: ج ۱ ص ۱۳۵)

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا نماز تہجد و دور کعت ہے، پھر جب نماز سے لوٹنے کا ارادہ ہو تو آخری دور کعت کے ساتھ ایک رکعت ملائے یہ ایک رکعت ان دور کعون کو وتر بنا دے گی (مدینہ منورہ کے فقیہ) قاسم رحمہ اللہ علیہ کہ ہم جب سے عقل و شعور کو پہنچے ہیں صحابہ کرامؐ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تین و تر پڑھتے ہیں۔

فائدہ نمبر 3:

یہ ایک رکعت پہلی دور کعت کے ساتھ اس طرح ملائے کہ دور کعت کے بعد سلام نہ پھیرے اور بغیر سلام پھیرے تیسرا رکعت ان کے ساتھ ملائے۔ حضرت عائشہؓ اور حضرت

ابی بن کعبؓ کی روایت میں دورکعت کے بعد سلام نہ پھیرنے کی صراحت ہے۔ ملاحظہ کیجئے

(۱) عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُسْلِمُ فِي رَكْعَتِي الْوُتُورِ (نسائی: ج ۲۸۸)

سعد بن ہشام حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ و تروی و تروں کی دو رکعتوں میں سلام نہیں پھیرتے تھے۔

☆ اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ و تر تین ہیں اور دورکعتوں کے بعد سلام نہیں بلکہ تین رکعتوں کے بعد سلام ہے۔

(۲) عَنْ أُبْيِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوُتُورِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَلَا يُسْلِمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ (نسائی: ج ۲۸۹)

حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ و تروں کی چھلی رکعت میں سبیح اسما ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل' یا ایهہ الکافرُونَ اور تیسرا رکعت میں قل' هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھتے تھے اور سلام نہیں پھیرتے تھے مگر ان تین و تروں کے اخیر میں۔

(۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ - ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ (مخترقیام لللیل: ص ۸۳)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے پس آپ نے دورکعتیں نماز پڑھی، پھر دورکعت نماز پڑھی، پھر دورکعت نماز پڑھی، پھر دورکعت نماز پڑھی، پھر دورکعت نماز پڑھی پھر دورکعت کے ساتھ ایک رکعت ملا کر ان کو و تربنا یا (یہ تیرہ (۱۳) رکعتیں ہوئیں)

(۴) عَنْ شُرَحِيلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ قَالَ أَفْبَلْنَا مَعَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدُبِيَّةِ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِالسُّقْيَا قَامَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَابِرٌ إِلَى جَنِيهِ فَصَلَّى الْعُتْمَةَ ثُمَّ صَلَّى
ثَلَاثَ عَشَرَةَ سَجْدَةً (مخترق ایام اللیل: ج ۲ ص ۸۲)

شرحبیل بن سعد نے حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے سنا انہوں نے بتایا کہ جب ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حدیبیہ سے واپس ہوئے اور سقیا بستی میں پہنچ تو رسول اللہ ﷺ کھڑے ہو گئے۔ آپ ﷺ نے عشاء کی نماز پڑھی پھر تیرہ رکعت نماز تہجد پڑھی۔ اس وقت جابر بن عبد اللہؓ بالکل آپ ﷺ کے قریب تھے۔

اُن احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ غیر رمضان میں تہجد تیرہ رکعت پڑھاتے۔

اگر غیر مقلدین کے یہ نظریات کہ

1- رسول اللہ ﷺ رمضان المبارک کی راتوں میں صرف اور صرف گیارہ رکعت پڑھتے تھے اس سے زیادہ رکعات نہ پڑھتے تھے۔

2- تراویح اور تہجد ایک نماز ہے، دو الگ الگ نمازوں نہیں ہیں۔

3- اور رسول اللہ ﷺ غیر رمضان المبارک میں تراویح سے جدا نماز تہجد نہیں پڑھتے تھے۔ کو درست تسلیم کر لیں تو اس سے دو خرابیاں لازم آتی ہیں۔

1- رسول اللہ ﷺ کی رمضان المبارک کی عبادت غیر رمضان سے کم ہو کے غیر رمضان میں تو آپ ﷺ نماز تہجد تیرہ رکعت تک پڑھتے تھے لیکن رمضان المبارک میں فقط گیارہ رکعت پڑھتے تھے اس سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔

2- اس صورت میں رسول اللہ ﷺ کا رمضان میں فقط گیارہ رکعت والا عمل آپ ﷺ کی رمضان المبارک میں کثرت عبادت والی احادیث کے خلاف و متصادم ہو جاتا ہے اور گیارہ

ركعت والی حدیث عائشہؓ اور رمضان میں کثرتِ عبادت والی حدیثوں میں تضاد بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اسلئے غیر مقلدین کے نظریات غلط اور بے دلیل ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث عائشہؓ میں نمازِ تجد کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تراویح کے علاوہ نمازِ تجد کی فقط گیارہ رکعت پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رمضان المبارک میں کثرتِ عبادت والی احادیث کے بھی موافق ہے اور حدیثوں میں تضاد بھی لازم نہیں آتا۔ دونوں نظریات قارئین کے سامنے ہیں۔ ایک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ان کی اپنی حدیثوں سے نکرانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تضاد پیدا کرنے والا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موافقت پیدا کرنے والا۔ ظاہر ہے جس نظریہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل و حدیث میں نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تعارض و تضاد لازم آتا ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ صحیح نظریہ وہی ہو گا جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل و حدیث میں اور مختلف ⁶ احادیث میں موافقت پیدا ہو جائے۔ سو اس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تراویح کے علاوہ گیارہ رکعت نمازِ تجد پڑھتے تھے جس کے انداز مختلف تھے، اس کی تفصیل آگے آرہی ہے اور اگر کسی کو رمضان المبارک میں تراویح سے جدا نہماز تجد پڑھنے کے ثبوت کا علم نہ ہو تو اس کے عدم علم سے عدم لازم نہیں آتا، ہمہ دانی کا کون دعویٰ کر سکتا ہے۔

دلیل نمبر:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل بھی کرتے اس پر دوام کرتے یعنی اس کی پابندی کرتے، اس کو گاتا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اسی چیز کی ترغیب دی ہے۔ وقتی جوش کے ساتھ کثیر عمل کے مقابلہ میں قلیل عمل جس پر بیشگ ہو وہ شرعاً، عقلًا

وَرَفَأْ زِيادَه بَهْتَرَهُ - چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَدُومَهُ وَإِنْ قَلَّ (صحیح مسلم: ج ۲۶۶) رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کون عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ فرمایا وہ عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے جس پر دوام ہوا گرچہ وہ عمل تھوڑا ہو۔

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَئَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قَالَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُلْ كَانَ يَخْصُّ شَيْئًا مِنْ أُلْيَامِ قَاتَلُ لَا ! كَانَ عَمَلَهُ دِيمَةً (صحیح مسلم: ج ۲۶۶)

علقمة تابعی کہتے ہیں میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کا عمل کیسے ہوتا تھا کیا آپ ﷺ ایسا عمل بھی کرتے تھے جس پر دوام نہ کرتے ہوں؟ ام المؤمنین نے فرمایا! کہ آپ ﷺ اپنے عمل پر دوام فرماتے تھے۔

نیز حضرت عائشہؓ سے روایت ہے اَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَادُودُهُمْ عَلَيْهِ وَإِنَّ قَلَّ وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلُوا عَمَلاً أَبْتُوْهُ (مسلم: ج ۲۶۶) بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر دوام کیا جائے اگرچہ وہ عمل قلیل ہوا اور آل محمد ﷺ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ جب کوئی عمل شروع کرتے تو اس کو ثابت رکھتے۔

عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ أَقْلَّ (بخاری: ج ۱۸۷) اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہوا گرچہ وہ تھوڑا ہو۔ اس نوع کی دیگر احادیث نُخبُ الْأَفْكَارُ شرح معانی الآثار: ج ۳۲۰، ۳۲۲، ۳۲۴ پر ملاحظہ فرمائیں۔ جب نبی پاک ﷺ کا اصول تھا کہ آپ ﷺ جو عمل کرتے اس پر دوام کرتے۔ آپ ﷺ کا دامی عمل یہ تھا کہ آپ ﷺ نصف رات کے بعد ہمیشہ نماز تجد پڑھتے

تھے۔ غیر مقلدین کا یہ نظریہ کہ آپ ﷺ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینہ میں صاف رات کے بعد تہجد نہیں پڑھتے تھے بلکہ رات کے اول حصہ میں آپ ﷺ جو تراویح پڑھتے وہی آپ کی نماز تہجد ہوتی تھی، یہ احادیث دوام کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ لہذا احادیث دوام کا تقاضا ہے کہ نماز تراویح کے ساتھ ساتھ تہجد کا معمول بھی چلتا رہے۔

دلیل نمبر:

صحیح مسلم: ج اص ۳۵۲، مختصر قیام رمضان: ص ۱۵۲ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رمضان المبارک میں نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ ﷺ کی ایک جانب کھڑا ہو گیا پھر ایک آدمی شامل ہو گیا، اس طرح متعدد آدمی آئے تھی کہ ایک جماعت بن گئی۔ جب نبی پاک ﷺ کو احساس ہوا کہ ہم آپ ﷺ کے پیچے ہیں تو آپ ﷺ نے (نماز طویل پڑھنے کی بجائے) نماز کو مختصر کیا اور اپنے گھر میں داخل ہو گئے فمَ صَلَّى صَلْوَةً لَمْ يُصَلِّهَا عِنْدَنَا لَيْنَى گھر میں داخل ہو کر وہ نماز پڑھی جو ہمارے پاس نہ پڑھی تھی۔ تراویح تو آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرامؓ کے ساتھ ادا کر لی تھی اس لئے گھر میں جا کر جو نماز پڑھی ظاہریہ ہے کہ وہ تہجد تھی۔ اس اختصار کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے عَنِ اَيِّ هُرَيْرَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ..... فَإِذَا صَلَّى وَحْدَةً فَلْيُطْوِلْ مَا شاءَ (ترمذی: ص ۵۵ باب ماجاء اذا امام احمد کم الناس... اخ (ابوداؤ: ج اص ۱۱۶) جب تم میں سے کوئی لوگوں کو امامت کرائے تو وہ نماز بھلکی پڑھائے..... اور جب اکیلانماز پڑھتے تو جتنی چاہے لمبی کرے۔ ذکورہ بالا حدیث انسؓ میں ناراض ہو کر نماز کو درمیان میں چھوڑ کر گھر میں داخل ہو جانا مراد نہیں کیونکہ آپ ﷺ نے صحابہ کرامؓ کو باجماعت تراویح پڑھتے دیکھ کر

تعریف و تصویب فرمائی۔ فرمایا اَحْسَنُوا اَصَابُوا انہوں نے اچھا کیا اور درست کیا..... اور خوف فرضیت کی وجہ سے بھی درمیان میں چھوڑنا مراد نہیں کیونکہ جب آپ ﷺ کو خوف فرضیت ہوا تو آپ ﷺ نے سرے سے باہر آ کر نماز باجماعت پڑھائی ہی نہیں۔

دلیل نمبر :

ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت ابوذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے صحابہ کرامؓ کو تین رات میں نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ پہلی رات میں تہائی رات تک، دوسری رات میں نصف رات تک اور تیسرا رات سحری تک، حتیٰ کہ سحری کے فوت ہونے کا خوف ہونے لگا۔ غیر مقلدین کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے تینوں رات آٹھ رکعتات پڑھائی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی پاک ﷺ نے پہلی اور دوسری رات میں تراویح پڑھانے کے بعد رات کے باقی حصہ میں کیا کیا؟ یقیناً آپ ﷺ نے رات کا باقی حصہ سوکر نہیں گزارا ہو گا کہ آخری عشرہ کی راتوں میں خصوصاً طاق راتوں میں تو آپ ﷺ عبادت کا زیادہ اہتمام کرتے تھے حتیٰ کہ دوسروں کو بھی جگاتے۔ لہذا آپ ﷺ نے رات کے اس باقی حصہ میں نماز تجد پڑھی ہوگی۔ پس تراویح کے بعد تجد کا الگ پڑھنا دونوں نمازوں کے الگ اگ ہونے کی دلیل ہے..... اور تیسرا رات میں نصف رات کے بعد والی رکعتوں میں ظاہر یہ ہے کہ آپ ﷺ نے تراویح اور تجد دونوں کا ثواب حاصل کرنے کیلئے دونوں نمازوں کی الگ الگ نیت کی ہو گی حصول ثواب کیلئے دونوں کی الگ الگ نیت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دو نمازیں الگ الگ ہیں ایک نہیں ورنہ ہر ایک کیلئے الگ الگ نیت کی ضرورت نہیں رہتی۔ جیسا کہ کوئی آدمی مسجد میں داخل ہونے کے بعد دور کھت نفل پڑھے اور ان میں تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضوء کی نیت کرے یا آدمی رات کے بعد خسوف قمر کی نماز پڑھی اور اس میں تجد کی نیت بھی

کرے یا چاشت کے وقت میں کسوف شمس کی نماز پڑھی جائے اور اس میں نماز چاشت کی نیت کر لی جائے تو دونوں نمازوں کی الگ الگ نیت کرنے کی وجہ سے پہلی صورت میں تحریۃ المسجد اور تحریۃ الوضوء کا، دوسری صورت میں نماز خسوف اور نماز تہجد کا اور تیسرا صورت میں نماز کسوف اور نماز چاشت کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر دوسری نماز کی نیت نہ کی جائے تو صرف تحریۃ المسجد، نماز خسوف اور نماز کسوف کا ثواب ہوگا، دوسری نماز کا ثواب نہ ہوگا۔ پس دونوں نمازوں کے حصول ثواب کیلئے دونوں نمازوں کی بیک وقت مستقلًا جداً جداً نیت کی حاجت و ضرورت ان کے دو الگ الگ نمازیں ہونے کی دلیل ہے، ایک نماز ہونے کی دلیل نہیں۔ سو جیسے دورِ عتوں میں دونمازوں کی الگ الگ نیت کرنے سے دونوں نمازوں کا ثواب حاصل ہونا تحریۃ المسجد اور تحریۃ الوضوء کو ایک نماز نہیں بناتا..... نماز خسوف اور نماز تہجد کو ایک نماز نہیں بناتا..... نماز کسوف اور نماز چاشت کو ایک نہیں بناتا بلکہ ان کو دو الگ الگ نمازیں ظاہر کرتا ہے..... ایسے ہی نصف رات کے بعد والی رکعات تراویح میں نماز تہجد اور نماز تراویح کی نیت کرنا اور دونوں نمازوں کی الگ الگ نیت کرنے پر دونوں نمازوں کا ثواب ملتا ان کو ایک نماز نہیں بناتا بلکہ دونمازیں ظاہر کرتا ہے ورنہ دونوں نمازوں کے ثواب کیلئے الگ الگ نیت کی ضرورت نہ ہوتی اور دلیل نمبر ۲۹/۲۹ میں مذکور احادیث دوام کا تقاضہ یہی ہے کہ آپ ﷺ نے نصف رات کے بعد والی رکعات تراویح میں تہجد کی نیت ضرور کی ہوگی اور تہجد کی برکات و ثواب بھی ضرور حاصل کیا ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ نبی پاک ﷺ سے تراویح و تہجد دونوں کا ثواب و برکات حاصل کرنے کیلئے تراویح کے بعد یا تہجد پڑھنے ہو گئے یا نصف رات کے بعد والی رکعات تراویح میں تہجد کی نیت کر لیتے ہو گئے۔ اسی لئے علامہ اور شاہ کشمیری العرف الخدی میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے تراویح و تہجد کا علیحدہ علیحدہ پڑھنا ثابت نہیں بلکہ آپ ﷺ کو لمبا کرتے، سونصف رات کے بعد والی رکعات میں تراویح اور تہجد دونوں کی نیت کرنے کی وجہ

سے دونوں نمازوں کے قائم مقام ہو جاتیں اور مولانا شاۓ اللہ امرتسری فرماتے ہیں کہ کسی نماز کا دوسرا نماز کے قائم مقام ثواب میں ہو جانے سے ان دونوں کا ایک ہونا لازم نہیں آتا۔ دیکھو جمعہ، ظہر کے قائم مقام ہے مگر دونوں ایک نہیں۔ جمعہ کے واسطے ائمہ ایک شرائط ہیں جو ظہر کیلئے نہیں (الحمدلله عن احادیث کاندھب: ص ۹۶، ۹۷)۔ فتاویٰ علمائے حدیث میں ہے اگر تراویح پہلے وقت میں ⁹ ₃₄ پڑھے تو صرف تراویح ہے، پچھلے وقت میں پڑھے تو تہجد کے قائم مقام ہوتی ہے (بشرطیکہ تہجد کی جدانیت کرے) پھر اس ایک رات کی وجہ سے پورے ماہ رمضان کی تہجد کا انکار کیسے درست ہے جبکہ نبی پاک ﷺ نے اس سے پہلے والی دو راتوں میں تراویح پڑھانے کے بعد رات کے باقی حصہ میں یقیناً تہجد پڑھی ہو گی۔ سو کرات نہیں گزاری ہو گی کیونکہ آپ ﷺ تو رمضان کی پہلی بیس راتوں میں کمر بستر کے ساتھ نہیں لگاتے تھے۔ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں کیسے نیند کی ہو گی؟

دلیل نمبر:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو تراویح کا امام مقرر کیا تو وہ رات کے اول حصہ میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کے علاوہ تہجد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا وَاللّٰهُ تَنَاهُ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي تَقُومُونَ یعنی وہ نماز جس سے تم سوجاتے ہو (یعنی تہجد) وہ اُس نماز سے افضل ہے جس کو تم قائم کر رہے ہو (یعنی تراویح)۔ تراویح کے بعد تہجد پڑھنے کی ترغیب تراویح و تہجد کی مغایرت کی دلیل ہے۔ اس کی تائید اشیخ عبدال قادر جیلانی رحمہ اللہ کی اس تحقیق سے ہوتی ہے۔ شیخ جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تراویح کے بعد تہجد کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ تراویح کے بعد کچھ نیند کر کے پھر اٹھ کر تہجد پڑھی جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تراویح کے بعد بغیر نیند کئے بلا کراہت تہجد جائز ہے۔ شیخ جیلانی رحمہ اللہ کا لفاظ یہ ہیں۔

وَالرِّوَايَةُ الْخَانِيَةُ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ غَيْرُ مُكْرُوهٍ لِكُنَّهُ يُؤْخُرُهُ لِمَارُوَى عَنْ عُمَرٍ
 قَالَ تَدْعُونَ أَفْضَلَ اللَّيْلِ آخِرَةَ الْسَّاعَةِ الَّتِي تَنَامُونَ أَحَبُّ إِلَيْيَ مِنَ السَّاعَةِ
 الَّتِي تَقْوُمُونَ دُوَسِرًا قُولَّ يَهُ كَيْ يَطْرِيقَهُ لِيَنْتَهِ تَرَاوِيْحُ کے بعد بغیر سوئے تہجد پڑھنا بلا
 کراہت جائز ہے کیونکہ حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے صحابہ کرامؓ کو کہا کہ تم
 رات کے اخیر والی گھری کی فضیلت کو چھوڑ دیتے ہو حالانکہ وہ ساعت جس میں تم سوچاتے
 ہو (یعنی رات کا آخری حصہ جس میں نماز تہجد پڑھی جاتی ہے) اُس ساعت سے مجھے زیادہ
 محبوب ہے جس میں تم قیام کرتے ہو (یعنی رات کا اول حصہ جس میں تراویح پڑھتے ہو)۔
 اس میں شیخ عبدال قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے بعد بغیر سوئے نماز تہجد کے بلا کراہت جائز
 ہونے پر استدلال کیا ہے، الہذا شیخ عبدال قادر جیلانی کے نزدیک حضرت عمرؓ کے اس فرمان
 کا محمل یہ ہے کہ وہ اپنے اس فرمان میں تراویح کے بعد تہجد کی ترغیب دیتے ہیں (غذیۃ
 الطالبین طبع یروت: ص ۲۶۹، طبع مصر: ج ۲ ص ۱۷) غیر مقلدین کے نزدیک غذیۃ الطالبین
 بڑی معترض کتاب ہے، انہوں نے مکتبہ سعودیہ کراچی سے عربی متن کو اردو ترجمہ کے ساتھ
 شائع کیا ہے۔ اور ان کے بعض علماء نے اس کا ارد ٹھنڈس بھی شائع کیا ہے۔ نیز المدخل لابن
 الحاج: ص ۲۹۹ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ابن الحاج رحمۃ اللہ علیہ عمرؓ کے مذکورہ قول کے
 بارے میں لکھتے ہیں وَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِنَّمَا هُوَ مُحْمُولٌ عَلَى غَيْرِهِمْ
 لَا عَلَيْهِمْ إِذْ أَنْهُمْ جَمَعُوا بَيْنَ الْفَضِيلَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَةً حضرت عمر
 بن خطابؓ کے فرمان کا محمل صحابہ کرامؓ نہیں بلکہ دوسرے لوگ ہیں کیونکہ صحابہ کرامؓ تو
 دونوں فضیلتوں کو جمع کرتے تھے یعنی رات کے اول حصہ میں تراویح اور آخری حصہ میں تہجد۔
 عام ازیں کہ وہ تراویح کے بعد مستقلًا تہجد پڑھتے ہوں یا نصف رات کے بعد والی رکعتات
 میں تہجد کی نیت کر لیتے ہوں۔ اس کی تفصیل دلیل نمبر ۳۱/۶ کے اندر لگز رچکی ہے۔

علامہ حمد بن عبد اللہ الحمد لکھتے ہیں وَلَعَلَّ هَذَا يُحْمَلُ لِلْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرِّوَايَةِ
الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى حُدُوْثِ ذَالِكَ فِي الْعُشْرِ الْأَوَّلِ وَآخِرِهِ وَإِنَّهُ لَا يُنْصَرِفُونَ إِلَّا عِنْدَهُ
طُلُوعُ الْفَجْرِ بِعِلَافِ صَلَوةِهِمْ قَبْلَ ذَالِكَ فَإِنَّهُمْ يَتَرَكُونَ قِيَامَ آخِرِهِ كَمَا فِي
قَوْلِ عُمَرَ وَآلِيٍّ يَنَامُونَ عَنْهَا خَيْرٌ مِّنَ الَّتِي يَقُولُونَ۔

(شرح زاد المستقنع للحمد: ج ۷ ص ۲۲)

یعنی حضرت سائب بن زیدؓ کی میں اور گیارہ رکعات والی دونوں حدیثوں کے درمیان تلقین یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ رمضان کے آخری عشرہ میں میں تراویح کے بعد گیارہ رکعات تہجد پڑھتے تھے اور طلوع فجر کے قریب نماز سے فارغ ہوتے جبکہ پہلے دو عشروں میں تراویح کے بعد رات کے اخیر میں تہجد چھوڑ دیتے تھے جیسا کہ حضرت عمرؓ کا فرمان ہے کہ وہ نماز جس سے تم سو جاتے ہو (یعنی نماز تہجد) وہ اُس نماز سے افضل ہے جس کے ساتھ تم قیام کرتے ہو (یعنی نماز تراویح) اور شرح زاد المستقنع للشیقیطی: ج ۵۳ ص ۱۰ اپر ہے فَقِيَامُ التَّهَجِيدِ أَفْضَلُ مِنْ قِيَامِ التَّرَاوِيْحِ "تہجد کا قیام تراویح کے قیام سے افضل ہے، افضل اور مفضول دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟

دلیل نمبر:

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقَى قَالَ زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلَىٰ فِي يَوْمٍ مِّنْ رَمَضَانَ وَأَمْسَى
عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ ثُمَّ قَامَ بِنَاءَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَأَوْتَرَ بِنَاءَ ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِإِ
صْحَابِهِ حَتَّى إِذَا بَقَى الْوِتْرُ قَدِمَ رَجُلًا فَقَالَ أَوْتُرُ بِإِاصْحَابِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا وِتْرَ إِنْ فِي لَيْلَةِ۔

(ابوداؤ: ج ۱ ص ۲۰۳ باب فی تفہیم الوتر، نسائی: ج ۱ ص ۱۱۹)

ایک روز حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ رمضان شریف میں اپنے بیٹے قیس بن طلق کے

گھر تشریف لائے۔ روزہ افطار کیا اور رات کو ہمیں تراویح اور وتر پڑھا کر اپنی مسجد میں گئے اور اپنے $\frac{11}{36}$ ساتھیوں کو نماز پڑھائی حتیٰ کہ جب وتر باتی رہ گئے تو ایک آدمی کو آگے کر دیا اور فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو وتر پڑھاؤ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ ایک رات میں دو دفعہ وتر پڑھنے جائز نہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ نے پہلی نماز جو وتر سمیت پڑھائی وہ تراویح تھی کہ رات کے اول حصہ میں تراویح پڑھی جاتی ہے اور دوسرا نماز جو آپ نے اپنی مسجد میں جا کر پڑھائی وہ تہجد تھی۔ اگر تراویح اور تہجد ایک نماز ہے تو تراویح کے بعد تہجد پڑھنے کا کیا مطلب؟

ولیل نمبر:

أَلَا تَرَى إِلَى مَا حَكَاهُ مَالِكُ فِي مَوْطَاهِ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا انصَرَفُوا مِنْ صَلَادَةِ التَّرَاوِيْحِ اسْتَعْجَلُوا الْخَدْمَ بِالطَّعَامِ مَخَافَةَ الْفَجْرِ وَكَانُوا يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْعِصَمِ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ فَقَدْ حَادُوا رَارَضَى اللَّهُ عَنْهُمُ الْفَضِيلَيْتَيْنِ مَعَأَ قِيَامَ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ فَعَلَى مِنْوَاهِهِمْ فَإِنْسِجْ إِنْ كُنْتَ مُتَّبِعًا إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ وَهُمْ سَادُتُنَا وَقُدُوْتُنَا إِلَى رَبِّنَا فَيَنْبِغِي لَنَا إِلَيْتَابَاعَ لَهُمْ وَإِلَاقْفِقَاعَ لَا فَارِهِمْ الْمُبَارَكَةُ لَعَلَّ بَرَكَةً ذَالِكَ تَعُودُ عَلَى الْمُتَّبِعِ لَهُمْ... الخ

(كتاب المدخل: ج ۲ ص ۲۹۹)

علامہ محمد عبد ربی مالکی عرف ابن الحاج فرماتے ہیں کہ موطا امام مالک میں ہے جب صحابہ کرام نماز تراویح سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تو صبح ہو جانے کے خوف سے اپنے خادموں کو جلدی کھانا لانے کا حکم کرتے اور طول قیام کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں کا سہارا لیتے۔ اس طرح صحابہ کرام کورات کے اول اور آخری حصہ میں قیام کی وجہ سے (تراویح اور تہجد) دونوں کی فضیلت حاصل ہو جاتی تھی۔ اگر تو تابعداری کرنا چاہتا ہے

تو ان کی تابعداری کر کیونکہ محبت جس کے ساتھ محبت رکھتا ہوا اُس کی تابع داری بھی کرتا ہے کہ محبوب کی تابعداری نہ کرنا شیوه محبت کے خلاف ہے۔ حضرات صحابہ کرامؓ ہمارے سردار اور پیشوایں اور محبت اپنے محبوب کا مطیع اور مرضی شناس ہوتا ہے۔ اس لئے ہمارا فرض ہے کہ ان کے آثار مبارکہ کی پیروی کریں اگرچہ عہد حاضر میں عام طور پر یہ مشکل نظر آتا ہے کہ مساجد میں عامۃ الناس کے ساتھ رات بھر نماز پڑھی جاسکتے تاہم کوشش کرنی چاہیے کہ صحابہ کرامؓ کی اس سنت کو عملی جامہ پہنانیں، جس کی صورت یہ ہے کہ مسجد میں تو لوگوں کے ساتھ اُسی $\frac{12}{37}$ قدر قیام کر لیں جس قدر میسر ہو۔ اس کے بعد گھر پہنچ کر ساری رات نماز میں کھڑے رہیں اور بہتر یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نماز و تر تمام نفی نمازوں (یعنی تجد وغیرہ) کے بعد پڑھی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ اور دوسرے تمام صحابہ کرامؓ تراویح کے بعد نماز تجد پڑھتے تھے۔ اس طرح وہ دونوں $\frac{13}{38}$ قیاموں (قیام اللیل اور قیام رمضان) کی فضیلت حاصل کرتے تھے، رات کے اول حصہ میں قیام بصورت تراویح اور آخری حصہ میں قیام بصورت تجد ہوتا تھا۔ خواہ مستقلًا خواہ نیتی۔

دلیل نمبر:

علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نَعَمْ بَثَّ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ الْجَمُعُ
بَيْنَ التَّرَاوِيْحِ وَالْتَّهَجُّدِ فِي رَمَضَانَ۔ (العرف الشذی: ص ۱۶۶)

جی ہاں بعض تابعین سے ثابت ہے کہ وہ رمضان میں تراویح و تجد دونوں پڑھتے تھے۔

دلیل نمبر:

قَالَ الْحَسَنُ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَصْلِيَ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ يُصْلِيَ إِذَا رَوَّحَ الْأُمَّامُ
بِمَامَعَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَذَلِكَ أَفْضَلُ وَالْأَفْلَيْصَلِيَ وَحْدَةً إِنْ كَانَ مَعَهُ قُرْآنٌ حَتَّى

لَا يُنْسِلِي مَامِعَةً (قیام رمضان للمرزوqi: ص ۱۶۶)

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی ہمت رکھتا ہے وہ امام کے ساتھ تراویح پڑھے پھر ترویج کے وقت میں وہ آدمی خود بھی نماز میں قرآن پڑھے یہ افضل ہے ورنہ اکیلانماز میں قرآن پڑھے تاکہ اس کو قرآن بھول نہ جائے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے قیام رمضان کے حاشیہ میں مولانا عبدالتواب ملتانی لکھتے ہیں جس آدمی کو قرآن مجید یاد ہے اُس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھے ثمَّ لِيُصَلِّ لِنَفْسِهِ بَيْنَ كُلَّ تَرْوِيهٍ حَتَّىٰ يَمَّا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنَ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَالِكَ بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ فَلِيُصَلِّ فِي بَيْتِهِ بِمَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّ الَّذِي يَعْنِي الْقُرْآنَ وَلَا يَتَعَهَّدُ بِيُخَافُ عَلَيْهِ النَّسِيَانُ وَنَسِيَانُ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْوَعْيِ ذَنْبٌ لَّيْسَ أَعْظَمَ مِنْهُ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ۔

پھر جو کچھ 14
39

قرآن اس کو یاد ہے اس کے ساتھ ہر دو ترویجوں کے درمیان خود بھی پڑھے اور اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو تو اپنے گھر میں جا کر نماز میں قرآن پڑھے کیونکہ جس آدمی کو قرآن یاد ہو اور وہ اس کو یاد رکھنے کی کوشش نہیں کرتا اس پر قرآن مجید بھولنے کا خطرہ ہے اور یاد کرنے کے بعد قرآن مجید کو بھلا دینا اتنا برا گناہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تراویح کے بعد گھر میں جا کر جو نماز پڑھے گا وہ نماز تجد ہے جس کی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اعلیٰ نماز عبد التواب صاحب تاکید و تلقین کر رہے ہیں۔

دلیل نمبر:

امام محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قیام رمضان کے صفحے کے اپر باب قائم کیا ہے بَابُ التَّعْقِيْبِ وَهُوَ رُجُوْعُ النَّاسِ إِلَى الْمَسْجِدِ بَعْدَ إِنْصَرَا فِيهِمْ عَنْهُ یعنی مسجد میں تراویح پڑھ کر گھر میں لوٹ آنا اور پھر دوبارہ مسجد میں جا کر نماز تجد پڑھنا۔ اس کو تعقیب کہا جاتا ہے۔ محدث مروزی یعنی عقیل بن عین سے کراہت اور عدم کراہت کے دونوں قول نقل کئے ہیں لیکن تراویح کے بعد گھر میں تجد پڑھنے کے جواز پر اتفاق ہے اور اس میں کراہت بھی

نہیں۔ چنانچہ غیر مقلد مولانا عبدالتواب ملتانی قیام اللیل کے حاشیہ میں لکھتے ہیں، حدیث انسؓ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رمضان میں تعقیب کے متعلق پوچھا گیا
 قَمَرُهُمْ أَنْ يَصْلُوْفِي الْبُيُوتِ وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبِيرُ الْتَّعْقِيبُ هُوَ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلًا ثُمَّ
 تَعُودُ فِيهِ¹⁵ وَأَرَادَ بِهِ الصَّلَاةَ النَّافِلَةَ بَعْدَ التَّرَاوِيْحِ فَكَرِهَ أَنْ يَصْلُوْفِي
 الْمَسْجِدِ وَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ ذَالِكَ فِي الْبُيُوتِ وَهُوَ أَبْرَأٌ إِسْحَاقُ بْنُ
 رَاهْوَيْهِ وَسَعِيدُ بْنِ جُبَيْرٍ ابْنِ اشْفَعٍ فَرَأَيْتَهُ ہیں کہ تعقیب کا معنی ہے ایک کام کر کے دوبارہ
 اُسی کام کو کرنا۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ مسجد میں تراویح پڑھنے کے بعد نماز (یعنی نماز تہجد)
 پڑھنا۔ سو مسجد میں دوبارہ واپس آ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ نماز تہجد گروں
 میں پڑھیں، اسحاق بن راہویہ اور سعید بن جبیر کی رائے یہی ہے۔

¹⁶
 41 دلیل نمبر:

غذیۃ الطالبین: صفحہ ۲۶۹ کے حوالہ سے یہ بات گذری ہے کہ تراویح کے بعد تہجد کے
 بارے میں دو قول ہیں ایک یہ کہ تراویح کے بعد کچھ نیند کر کے پھر تہجد پڑھیں تو مکروہ نہیں اُن
 نَا شِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَأً وَأَقْوَمُ فِيَّا کا تقاضا بھی یہی ہے اور تراویح کے بعد بغیر
 نیند کرنے تہجد پڑھنا مکروہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ تراویح کے بعد بغیر نیند کرنے تہجد پڑھنا مکروہ
 نہیں ہے مگر تہجد پڑھیں رات کے آخری حصہ میں۔

دلیل نمبر:

الروضۃ المریع کے صفحہ ۶۵ میں ہے کہ بیس رکعات تراویح سنت موکدہ ہے اور اس
 کے بعد ترجماعت کے ساتھ پڑھے۔ وَيُؤْتُرُ الْمُتَهَجِّدُ بَعْدَهُ اور جو آدمی تراویح کے بعد
 تہجد بھی پڑھتا ہو وہ وتر نماز تہجد کے بعد پڑھے اور المقصون صفحہ ۱۸۷ میں ہے ثُمَّ التَّرَاوِيْحُ
 وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً يَقُومُ بِهَا فِي رَمَضَانَ فِي جَمَاعَةٍ وَيُؤْتُرُ بَعْدَهَا فِي

الْجَمَاعَةِ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَهْجِيدٌ جَعَلَ الْوِتُورَ بَعْدَهُ، پھر تراویح میں رکعت ہے، رمضان میں تراویح اور وتر دونوں جماعت کے ساتھ پڑھے لیکن تراویح کے بعد تہجد پڑھنے والا آدمی و تہجد کے بعد پڑھے۔ اس سے بھی تراویح کے بعد تہجد ثابت ہوئی۔

دلیل نمبر:

الروضۃ المرائع اور المقتضی میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہے اگر اس آدمی نے تراویح کے بعد وتر پڑھ لئے اس کے بعد تہجد پڑھنے تو وتروں کا کیا کرے؟ اس کی دو صورتیں ہیں (۱) اکمُ يَنْقُضِ الْوِتُورَ وَصَلَّى وَلَمْ يُوْتِرْ پہلے پڑھنے ہوئے تو وتروں کو نہ توڑے بلکہ فقط تہجد پر اتفاق کرے اور ورنہ پڑھنے (۲) جو وتر امام تراویح کے ساتھ تراویح کے بعد پڑھنے ہیں نماز تہجد کے ^{۲۰}_{۴۵} بعد ایک رکعت پڑھ کر ان وتروں کے ساتھ ملا کر ان کو شفعت بنا دے اور وتر تہجد کے بعد پڑھنے تو یہ بھی جائز ہے۔ ان مسائل سے معلوم ہوا کہ فقہ حنبلی جو سعودیہ میں شرعی قانون کے طور پر نافذ ہے اس کے مطابق تراویح اور تہجد جدا جد ا نمازیں ہیں ورنہ تراویح کے بعد تہجد پڑھنے کی کیا ضرورت؟ جبکہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے مرفوع حدیث ہے لَا تَصْلُوا صَلَوةً فِي يَوْمِ مَرَّتِينَ ایک وقت میں ایک نماز کو دو مرتبہ نہ پڑھو۔ (ابوداؤ ذبح اصل ۸۶)

دلیل نمبر:

ابن الحاج ابن عثیمین کے صحیح ۲۹۹ پر امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں وَقَدْ قَالَ مَالِكُ أَمَّا آنَا فِيذَا أَوْتَرْوَا خَرَجْتُ وَتَرَكُتُهُمْ فَلِإِنْسَانٍ أُسْوَةٌ فِي تَرْكِ الْوِتُورِ مَعَهُمْ حَتَّى يُوْتَرَ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ تَفْلِيهِ آخرَ اللَّيْلِ وَقَدْ كَانَ سَيِّدِي أَبُو مُحَمَّدٍ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ النَّاسِ صَلَاةَ الْقِيَامِ وَيُوْتِرُ مَعَهُمْ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ

صَلَّى مَا قِدْرَةُ اللَّهِ وَلَا يُعِيدُ الْوِتْرَ وَكَانَ رَحْمَةُ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ شَيْخَهُ سَيِّدُ
الشَّيْخِ أَبَا الْحَسِينِ الرَّبِيعَ كَانَ يَفْعُلُ ذَالِكَ -

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا جب لوگ مسجد میں وتر پڑھنے لگتے تو میں نکل آتا ہوں اور ان کو ²¹₄₆ چھوڑ دیتا ہوں۔ ابن الحاج جعفر بن حجاج ہوتے ہیں کہ لوگوں کیلئے مسجد میں نمازیوں کے ساتھ وتروں کے چھوڑنے میں یہ ایک نمونہ ہے تاکہ وہ گھر کے اندر اخیر شب میں نوافل تجد کے بعد وتر پڑھیں۔ نیز فرماتے ہیں سیدی ابو محمد مسجد میں لوگوں کے ساتھ تراویح اور وتر پڑھتے پھر گھر میں آ کر جو مقدر میں ہوتے نوافل تجد پڑھتے اور وتر نہ لوثاتے اور ان کے شیخ سیدی الشیخ ابو الحسن الزیارات بھی ایسا ہی کرتے۔ اس سے تین عظیم محدثین امام مالک جعفر بن حجاج اور شیخ ابو الحسن زیارات جعفر بن حجاج کے بعد تجد پڑھنا ثابت ہوا۔

دلیل نمبر:

كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَخَارِيُّ إِذَا كَانَ أَوَّلَ لَيْلَةً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَيُصَلِّيُ بِهِمْ وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عِشْرِينَ آيَةً وَكَذَالِكَ
إِلَى أَنْ يَعْخِتِمَ الْقُرْآنَ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي السَّحْرِ مَا بَيْنَ النِّصْفِ إِلَى الثُّلُثِ مِنَ
الْقُرْآنِ فَيَخْتِمُ عِنْدَ السَّحْرِ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ لَيَالٍ (ہدی الساری مقدمہ فتح
الباری: ص ۲۶۶ طبع قدیمی کتب خانہ، تیسیر الباری از نواب وحید

الزمان: حج اص ۳۹، نصرۃ الباری مؤلف مولوی عبدالستار امام غرباء
(ابحدیث: ص ۱۲)

جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی تو امام بخاری کے پاس ان کے دوست و احباب جمع ہوجاتے سو وہ ان کو نماز تراویح پڑھاتے اور ہر رکعت میں میں آیات تلاوت کرتے۔ اسی طرح پورا قرآن ختم کرتے، پھر سحری کے وقت نماز تجد میں نصف سے ثلث

قرآن تک ²³/₄₈ پڑھتے اور ہر تیسرا رات سحری کے وقت ختم کرتے۔

دلیل نمبر:

امام ابو محمد عبد اللہ بن محمد اصبهانی المعروف بابن اللبان جو مشہور شافعی نقیبہ ابو حامد اسفار ائمہ کے شاگرد تھے، کے بارے میں منقول ہے کہ وہ پورے رمضان میں لوگوں کو نماز تراویح کے پڑھاتے تھے اور ہر رات جب تراویح سے فارغ ہو جاتے تو مسجد میں ہی نماز تہجد پڑھتے رہتے تھے جو طلوع ہونے کے قریب تک۔

(تاریخ بغداد: ج ۰، اصل ۱۲۳، بحوالہ رکعت تراویح۔ ایک تحقیقی جائزہ)

دلیل نمبر:

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَعْخِتُمْ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةً خَتْمَهُ وَفِي رَمَضَانَ وَيَوْمَ الْعِيدِ إِثْنَيْنِ وَسِتِّينَ خَتْمَهُ (الخیرات الحسان: ص ۸۵، عقوبات الجمان: ص ۳۱۳، مناقب موفق: ج اصل ۲۳۵، مناقب کردی: ج اصل ۲۲۲، ۲۲۳، اخبار ابی حنیفہ واصحابہ: ص ۴۱، مناقب موفق بر روایت یحییٰ بن معین: ص ۲۳۰)

امام ابو یوسف رض میا کہ امام ابو حنیفہ رض دن میں قرآن کریم کا ایک ختم کرتے تھے لیکن رمضان اور عید میں قرآن کریم کے ۶۲ ختم کرتے۔ (رمضان شریف میں ایک دن کو، ایک رات کو ایک پورے مہینے کی تراویح میں ختم کرتے اور ایک عید کے دن ختم کرتے) علی بن الصدائی کہتے ہیں رَبِّيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سِتِّينَ خَتْمَهُ، خَتْمَهُ بِاللَّيْلِ وَخَتْمَهُ بِالنَّهَارِ (مناقب موفق: ج اصل ۲۳۲) میں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھا انہوں نے ماہ رمضان میں (ختم تراویح کے علاوہ) سانچھتم کئے، ایک ختم رات میں اور ایک دن میں۔

قَالَ شَدَّادُ بْنُ حَكِيمٍ قَلْتُ لِزَرْقَبِنِ الْهُذَيْلِ إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرَ الرَّازِيَ
يَذُكُّرُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ مَرَّةً وَفِي شَهْرِ
رَمَضَانَ سِتِّينَ مَرَّةً قَالَ صَدَقَ أَبُو جَعْفَرٍ وَهُوَ عِيسَى بْنُ مَاكَانَ
(مناقب موفق: ج اص ۲۲۳، مناقب کردوی: ج اص ۲۲۵)

شداد محدث کہتے ہیں میں نے امام ابوحنیفہ رض کا گرد زفر بن ہذیل کو کہا کہ میں نے
ابو جعفر رازی سے سناؤہ ذکر کر رہے تھے کہ امام ابوحنیفہ رض آن کریم کے تیس (۳۰) ختم
کرتے اور ماہ رمضان میں ساٹھ (۶۰) ختم کرتے۔ امام زفر نے فرمایا ابو جعفر رض
کہا (یہ ساٹھ ختم، ختم تراویح کے علاوہ تھے) ان اقوال میں اختصار ہے۔ امام ابن الہمام رض
اس کی وضاحت یوں کی ہے وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ إِحدَى وَسِتِّينَ
خَتْمَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ خَتْمَةً وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ خَتْمَةً وَفِي كُلِّ التَّرَاوِيْحِ
24
49
خَتْمَةً

(فتح القدير: ج اص ۲۰۹)

امام ابوحنیفہ رض رمضان میں اکٹھ (قرآن کے) ختم کرتے۔ ایک دن میں، ایک
رات میں اور ایک مکمل تراویح میں۔

فائده۔ ظاہر یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ رض والا ختم تراویح کے بعد تجد میں کرتے ہوں گے
کیونکہ غیر رمضان میں ان کا معمول رات کو نوافل میں قرآن پڑھنے کا تھا تو رمضان میں تو
بطریق اولی نوافل تجد میں پڑھتے ہونگے۔ نیز تراویح والا ختم تو پورے مہینہ میں مکمل ہوتا تھا۔
دلیل نمبر:

نقہ مالکی کی کتاب المدخل میں ہے یَتَبَغِي لِلْمُكَلِّفِ أَنَّهُ إِذَا صَلَّى الْمُغْرِبَ

يُعِجِّلُ²⁵ فِطْرَةً ثُمَّ يَقُومُ فَيُصْلِّي بِحِزْبِينَ وَنَصْفِي أَوْ أَكْثَرَ قَبْلَ الْعِشَاءِ ثُمَّ يَخْرُجُ يُصَلِّي مَعَ النَّاسِ الْقِيَامَ وَيُوَتُرُ مَعَهُمْ... ثُمَّ يَنَامُ مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ يَقُومُ لِتَهْجِيَّهِ فَيُصَلِّي مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِمَّا يَقِنَّ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيلِ (العنوان: ص ۳۰۰)

مکف آدمی کیلئے مناسب ہے کہ وہ نمازِ مغرب پڑھ لے تو کھانے سے جلدی فارغ ہو کر کھڑا ہو جائے اور نماز میں اڑھائی پارے یا اس سے زیادہ پڑھے پھر نمازِ عشاء کیلئے (مسجد کی طرف) نکلے اور لوگوں کے ساتھ تراویح اور وتر پڑھے۔ پھر سو جائے جو اس کے مقدار میں ہے۔ سونے کے بعد نمازِ تہجد کیلئے کھڑا ہو جائے اور رات کے بقیہ حصہ میں جس قدر آسانی سے ہو سکے نوافل تہجد پڑھے۔

دلیل نمبر:

علامہ ابن رشد مالکی عین الدین اور تہجد کی فضیلت میں تقابل کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِنَّ التَّرَاوِيْخَ الَّتِي جَمَعَ عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُرْغَبُ فِيهَا وَإِنْ كَانُوا إِخْتَلَفُوا فِي أَيِّ أَفْضَلِ أَهِيَّ أَوِ الصَّلَاةِ آخِرَ اللَّيْلِ؟ أَعْنَى الَّتِي كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ²⁶ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُنَّ الْجُمُهُورَ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ۔ (بدایۃ الجہد۔ الباب الخامس فی قیام رمضان: ج اص ۱۷۸)

اور بے شک وہ تراویح جس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اسی کی رغبت دی جاتی ہے۔ لیکن علماء کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ اول رات کی تراویح افضل یا آخر رات کی نماز (تہجد) افضل ہے جو آخر رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسالم کی نماز تھی۔ جمہور کے نزدیک آخر رات کی نماز (تہجد) افضل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تراویح جو تہجد سے کم درجہ کی

نماز ہے اس پر ²⁷/₅₂ اکتفا کرنے کے نماز تہجد کو نہ چھوڑ جائے بلکہ اول رات میں تراویح پڑھ کر پھر کچھ نیند کر کے اس کے بعد تہجد بھی پڑھی جائے کہ تراویح سے تہجد کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔

دلیل نمبر:

الفقه الاسلامی و ادلة (جس میں مذاہب اربعہ کے مسائل جمع ہیں) میں ہے فَإِنْ كَانَ لَهُ تَهْجُّدٌ جَعَلَ الْوِتْرَ بَعْدَهُ إِسْتِحْبَابًا.... وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَهْجُّدٌ جَعَلَ الْوِتْرَ مَعَ الْإِمَامِ لِيَنْبَأَ لَهُ فَضْيْلَةُ الْجَمَاعَةِ (حج ص ۲۵)

اگر تراویح کے بعد آخر رات میں تہجد پڑھنے کا معمول ہو تو مستحب یہ ہے کہ وہ تہجد کے بعد پڑھیں اور اگر تراویح کے بعد تہجد کا معمول نہ ہو تو وہ تراویح کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھتے تاکہ اس کو جماعت کی فضیلت حاصل ہو جائے۔

دلیل نمبر:

میاں نذیر حسین صاحب دہلوی غیر مقلدین کے نزدیک کس قدر و منزلت کے مالک ہیں اس کا اندازہ غیر مقلدین کے شیخ العرب والجم مولانا بدر الدین شاہ راشدی کی ²⁸ ان کے بارے میں تحریر کردہ القبابات سے لگایا جاسکتا ہے۔ شیخ الكل، امام المتقین، سید الحمد شین، تاج الفقہاء، علم العلماء، جامع العلوم الفقیلیہ والعقلییہ، ناصر السنۃ البغییہ، عمدة العالمین، جیتہ اللہ علی الْخَلْق، مجدد القرن، الامام الحدیث الفقییہ الاصولی، الشیخ شیخنا السید نذیر حسین... اخ (ہدایۃ المستقید: حج ص ۱۰۰) غیر مقلدین کی اتنی بڑی شخصیت جو جیتہ اللہ علی الْخَلْق ہے تو غیر مقلدین کے نزدیک تو ضرور جنت ہو گئے۔ ان کا رمضان شریف کا معمول ملاحظہ فرمائیں۔ میاں صاحب موصوف کے سوانح

نگار غیر مقلد فضل حسین بھاری لکھتے ہیں ”میاں صاحب لیالی رمضان المبارک میں دو ختم قرآن مجید کے بحالت قیام ہر سال سنتے، ایک تو نماز عشاء کے بعد تراویح میں جس کے امام تھے حافظ احمد عالم فقیہ، محدث جو آپ کے شاگرد رشید تھے۔ تین سپارے روزانہ سناتے ترتیل و تجوید کے ساتھ، دوسرا ختم سنتے نماز تہجد میں جس کے امام ہوتے حافظ عبدالسلام سلمہ، (آپ کے بڑے پوتے)“

(الجیاۃ بعد الحمایات: ص ۱۳۸)

دلیل نمبر:

غیر مقلدین کے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری سے سوال کیا گیا جو شخص رمضان المبارک میں عشاء کے وقت نماز تراویح پڑھ لے وہ پھر آخر رات میں تہجد پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟³¹

موصوف جواب میں فرماتے ہیں، ”پڑھ سکتا ہے تہجد کا وقت ہی صبح سے اول شب میں تہجد نہیں ہوتی“، (فتاویٰ شناختیہ: ج اص ۲۸۲)

دلیل نمبر:

غیر مقلدین کے خواجہ محمد قاسم لکھتے ہیں ماہ رمضان میں اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کے پہلے حصے میں قیام کر چکا ہو تو وہ پچھلے حصے میں بھی قیام کر سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ”یہ بالکل کر سکتا ہے کیونکہ نبی ﷺ سے ایک ہی رات کے مختلف حصوں میں قیام کرنا ثابت ہے (حجی علی الصلوۃ: ص ۳۹)“ خواجہ صاحب کے نزدیک تراویح کے بعد تہجد صرف جائز ہی نہیں بلکہ نبی پاک ﷺ سے تراویح کے بعد تہجد پڑھنا ثابت ہے“

دلیل نمبر:

سعید بن جبیر رمضان المبارک میں چھ ترویجے (میں تراویح اور چار نوافل تہجد)

پڑھاتے اور ہر دور کعتوں کے بعد سلام پھیرتے اور ہر چار رکعات کے مجموعہ کو ترویج کہتے

ہیں (قیام رمضان للمرزوqi: ص ۱۵۸) ^{۳۳} _{۵۸}

دلیل نمبر:

عبد الرحمن الاسود رمضان میں چالیس (۲۰) رکعات اور سات و تر پڑھاتے (مصنف اہن ابی شیبہ: ج ۲ ص ۲۸۵ + ۲۰ تراویح، دو ترویجوں کے درمیان چار رکعات نفل

جو ۲۶ رکعات ^{۳۴} _{۵۹} بنتی ہیں، مجموعہ ۳۵ رکعات اور سات رکعات میں چار رکعات تہجد اور

تین و تر ہیں، مجاز آن کے مجموعہ کو سات و تر کہا گیا ہے۔

دلیل نمبر:

ورقاء کہتے ہیں کہ سعید بن حبیر رض رض المبارک میں ہمیں امامت کرتے، اور ہمیں راتوں میں چھ ترویج پڑھاتے (۲۰ تراویح اور چار رکعات تہجد یا چار فرض) اور جب آخری

عشرہ شروع ^{۳۵} _{۶۰} ہو جاتا تو وہ مسجد میں اعتکاف کرتے اور ہمیں سات ترویج (۰

تراویح، آٹھ نوافل تہجد یا چار رکعت فرض اور چار رکعت تہجد) پڑھاتے۔

(قیام رمضان للمرزوqi: ص ۱۵۸)

دلیل نمبر:

محمد بن سیرین ^{۳۶} _{۶۱} کہتے ہیں کہ ابو حییمہ قاری لوگوں کو رمضان المبارک میں

رکعات (۲۰ تراویح، ۱۶ تراویحی نوافل، دور کعت تہجد اور تین و تر)

پڑھاتے

(قیام رمضان للمرزوqi: ص ۱۵۸)

دلیل نمبر:

صالح مولیٰ تو مہ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ حرث سے پہلے لوگوں کو اس حالت میں پایا کہ وہ رمضان میں $\frac{37}{62}$ رکعات (۲۰ تراویح، ۱۶ اترویجی نوافل، دو رکعت تہجد اور تین وتر، مجموع ۳۱ رکعات) کے ساتھ قیام کرتے ہیں اور ان میں سے وتر پانچ ہیں۔
 (قیام رمضان للمروزی: ص ۱۵۸)

دلیل نمبر:

عمر بن $\frac{38}{63}$ عبدالعزیز اپنے گنبد میں ہوتے اور لوگ ان کی موجودگی میں پندرہ سلاموں (۱۰ سلام تراویح، ۸ رکعات تہجد میں ۲ سلام، ایک سلام بعد الوتر، مجموع ۱۵ سلام) کے ساتھ رات کو قیام کرتے۔
 (قیام رمضان للمروزی: ص ۱۵۸)

دلیل نمبر:

یونس کہتے ہیں کہ فتن ابن الاشعث سے پہلے جامع مسجد میں دیکھا کہ لوگوں کو عبد الرحمن بن ابی بکر اور سعد بن ابی الحسن اور عران العبدی ۵ ترویج (یعنی ۲۰ تراویح) نماز پڑھاتے ہیں اور جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو ایک ترویج زیادہ کر دیتے (یعنی ۲۰ تراویح کے بعد چار رکعات تہجد پڑھاتے۔ اس سے پہلے ممکن ہے تہجد فرداً فرداً پڑھتے ہوں)
 (قیام رمضان للمروزی: ص ۱۵۸)

دلیل نمبر:

زرارہ بن اوفی اہل محلہ کو رمضان میں چھ ترویج پڑھاتے (یعنی ۲۰ تراویح اور چار نوافل تہجد) اور جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو ہر رات سات ترویج (یعنی ۲۰ تراویح اور ۸ نوافل تہجد) پڑھاتے۔
 (قیام رمضان للمروزی: ص ۱۵۹)

دلیل نمبر:

آج کل حرمین شریفین میں نماز عشاء کے بعد ۲۰ تراویح پڑھتے ہیں، یہ عمل پورا ماہ جاری رہتا ہے اور آخری عشرہ میں رات کے اخیر حصہ میں تراویح کے بعد تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ اگر ماہ رمضان میں تراویح اور تہجد ایک نماز ہو جاتی ہے تو پھر تراویح کے ساتھ تہجد بھی ادا ہو گئی حالانکہ آخری عشرہ میں تراویح کے بعد تہجد مستقلًا جدا پڑھی جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اہل حرمین کے نزدیک بھی رمضان المبارک میں تراویح اور تہجد ایک نماز ہیں ہو جاتی بلکہ دو مستقل جداب جد انماز یہیں ہوتی ہیں۔

دلیل نمبر:

علامہ شنقبیطی صاحب اصل مشروعیت صلوٰۃ التراویح کے عنوان کے تحت الشرح المجمع لمستقمع للشنقبیطی: ج ۵۳ ص ۸ پر لکھتے ہیں

فَكَانَ أَصْلُ الْجَمْعِ مُسْتَنِدًا إِلَى السُّنَّةِ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِكُنَّ الْوَقْتَ الَّذِي اخْتَارَهُ مِنْ كَوْنِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ لَمْ يَكُنْ مِنْ هُدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ الصِّفَةُ مِنْ كَوْنِهَا فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ مِنْ سُنَّةِ عُمَرَ وَلَدَالِّكَ لَوِ اعْتَرَضَ مُعْتَرِضٌ عَلَى فِعْلِ التَّرَاوِيْحِ وَالتَّهَجُّدِ فِي آخِرِ رَمَضَانِ أُجِيبَ بِهِلَّدًا الْجَوَابِ وَرِيْلَ لَهُ إِنَّ التَّرَاوِيْحَ شُرِعْتُ سُنَّةً عُمَرِيَّةً أَيْ إِنَّهَا سُنَّةً وَحَاصِلَ الإِجْمَاعُ عَلَيْهَا وَأَمَّا النَّهَجُودُ فَيَكُونُ بَعْدَ الْهُجُودِ لَأَنَّ هُدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَهَجُّدِهِ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ اضْطِبَاجِهِ فَسُسِّمَ التَّهَجُّدُ تَهَجُّدًا لِأَنَّهُ بَعْدَ الْهُجُودِ وَهُوَ أَكْمَلُ وَأَفْضَلُ وَأَعْظَمُ مَا يَكُونُ لِكَوْنِهِ بَعْدَ الرَّاحَةِ وَالإِسْتِجْمَامِ كَمَا أَشَارَ اللَّهُ إِلَى ذَلِكَ حِينَمَا أَمَرَ بِهِ نَبِيَّهُ قَالَ وَمَنِ الَّيْلُ قَتَهَجَّدِيهِ

نَافِلَةُ لَكَ.... فَتَكُونُ سُنَّةً عُمُرِيَّةً مِنْ جِهَةِ الْوَقْتِ أَيْ كُونُهَا فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ لَا نَ
النِّيَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جَمَعَ الصَّحَابَةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ -

پس جماعت کی مشروعت کی اصل بنیاد رسول اللہ ﷺ کے مسنون فعل پر ہے لیکن اس کیلئے عشاء کے بعد کا وقت اختیار کرنا نبی پاک ﷺ کا طریقہ نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے۔ لہذا اگر کوئی عشاء کے بعد تراویح اور رمضان کے اخیر میں تہجد پر اعتراض کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تراویح کا یہ طریقہ حضرت عمرؓ کی سنت ہے جس پر صحابہ کرامؓ کا اجماع ہے۔ لیکن تہجد نیند کے بعد پڑھی جاتی ہے کیونکہ نبی ﷺ کا تہجد میں یہی طریقہ تھا کہ آپ لیٹھے کے بعد تہجد پڑھتے تھے۔ نیز تہجد کو تہجد اسلئے کہا جاتا ہے کہ تہجد ہجود (نیند) کے ⁴¹₆₆ بعد پڑھی جاتی ہے اور یہی اکمل، افضل اور اعظم طریقہ ہے کیونکہ اس میں تہجد آرام اور قلبی یکسوئی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی ﷺ کو حکم دیتے ہوئے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ فرمان اللہ ہے ”اور نیند سے آٹھ پس نماز تہجد پڑھ کہ یہ آپ کیلئے ایک زائد نماز ہے“۔ خلاصہ یہ ہے کہ تراویح باجماعت اول وقت میں پڑھنا سنت عمرؓ ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرامؓ کو رات کے اخیر میں نماز تہجد باجماعت پڑھائی ہے“

دلیل نمبر: ⁴²₆₇

علامہ شفیطی تراویح کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں

قَالَ (تُفْعَلُ فِي جَمَاعَةٍ مَعَ الْوَتْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ) أَيْ أَنَّهُ يَقُولُ بِهِمْ
وَيُؤْتِرُ وَلِذَلِكَ يُؤْتِرُ بِهِمْ فِي التَّرَاوِيْحِ، فَإِذَا جَاءَتْ أَوَّلُ أَخِيرِ رَمَضَانَ وَأَرَادُوا
أَنْ يَقُولُوا فِي التَّهَجُّدِ فَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَفْضَلَ إِنْصَارًا لِهِمْ بِدُونِ وَتْرٍ
(شرح زاد الاستفادة لشفیطی: ج ۵۳ ص ۱۰)

رمضان میں عشاء کے بعد تراویح باجماعت بیع و تر پڑھی جاتی ہیں یعنی امام ان کو تراویح اور ورنوں پڑھائے اور جب رمضان کا آخری عشرہ آجائے اور لوگوں کا ارادہ ہو رات کے اخیر میں تہجد پڑھنے کا تو کوئی شک نہیں کہ ان کا تراویح سے بغیر تراویح کے لوث جانا افضل ہے تاکہ تہجد کے بعد ورنوں پڑھیں۔

دلیل نمبر:

علامہ شنقبطی شرح زاد المستقیع: ج ۳ ص ۱۰ پر فرماتے ہیں
 وَتُعْتَبِرُ صَلَةُ التَّرَاوِيْحِ فِي الْاَصْلِ قِيَامًا لِأَوَّلِ اللَّيْلِ وَصَلَةُ التَّهَجُّدِ قِيَامًا لِآخِرِ اللَّيْلِ وَالْقِيَامَانِ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ فِي قِيَامِ التَّهَجُّدِ أَفْضَلُ مِنْ قِيَامِ التَّرَاوِيْحِ دراصل ۴۳/۶۸ نماز تراویح رات کے اول حصہ کا قیام ہے اور نماز تہجد رات کے اخیر کا قیام ہے اور دنوں قیاموں کے درمیان بہت فرق ہے کیونکہ تہجد کا قیام تراویح کے قیام سے افضل ہے۔

دلیل نمبر:

علامہ شنقبطی نے شرح زاد المستقیع للشنقبطی: ج ۳ ص ۱۱ پر لکھتے ہے
 فَإِذَا صَلَّيْتَ التَّرَاوِيْحَ وَأَوْتَرَ الْإِمَامُ فَلِلْعَلَمَاءِ أَوْ جُهَّهَ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لَا تُؤْتِرُ مَعَهُ حَتَّى لَا يَكُونَ وِتْرًا إِنْ فِي لِيْلَةٍ إِذَا كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَهَجُّدَ وَتُؤْتِرَ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ تُؤْتِرُ مَعَهُ وَتُؤْتِرُ فِي التَّهَجُّدِ وَتُؤْتِرُ بَعْدَهُمَا - وَقَالَ بَعْضُهُمْ تُؤْتِرُ فِي التَّرَاوِيْحِ ثُمَّ تُصَلِّيُ التَّهَجُّدَ وَتَرُكُ وَتُرِيدُ التَّهَجُّدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَضْلَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَالْأَسْبِقِ -

پس جب آپ نے تراویح پڑھ لی اور امام نے ورنوں پڑھانے کا ارادہ کیا تو ورنوں کے

بارے میں علماء کے تین قول ہیں (۱) بعض علماء نے کہا ہے کہ آپ امام کے ساتھ وتر نہ پڑھیں تاکہ ایک رات میں دودفعہ وتر پڑھنے کی خرابی لازم نہ آئے، یہ تب ہے جب تہجد اور وتر پڑھنے کا ارادہ ہو۔ (۲) بعض علماء نے کہا ہے کہ تراویح اور تہجد دونوں کے بعد وتر پڑھنے کا ارادہ ہے۔ (۳) اور بعض علماء نے کہا ہے کہ تراویح کے بعد وتر پڑھ لے اور تہجد کے بعد نہ پڑھے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ تراویح، تہجد سے مقدم ہے اور جو پہلے ہے اس کا حق مقدم ہے۔ اس لئے وتر تراویح کے بعد پڑھے اور تہجد پڑھ کر وتر کو چھوڑ دے۔

دلیل نمبر:

شرح کتاب آداب الحشی الی الصلوۃ: ج اص ۹۶ میں لکھا ہے
 وَوَقْتُهَا بَعْدُ الْعِشَاءِ وَسُنْتَهَا قَبْلَ الْوِتْرِ إِلَى طَلُوعِ الْفَجْرِ وَيُوْتَرُ
 بَعْدَهَا.... فَإِنْ كَانَ لَهُ تَهْجِدٌ جَعَلَ الْوِتْرَ بَعْدَهُ
 ”اور تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے اور سنت یہ ہے کہ تراویح
 وتر سے پہلے پڑھی جائے اور وتر اس کے بعد پڑھے جائیں اور اگر تراویح کے بعد تہجد پڑھنے
 کا معمول ہو تو پھر وتر، تہجد کے بعد پڑھے جائیں“

شاهد اقبال: مولانا! آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تراویح و تہجد کے فرق پر ۲۸ دلائل پیش کئے۔ ان میں سے ۴۳ دلائل سے تراویح کے بعد تہجد کا الگ پڑھنا بھی ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یہ بات بخوبی سمجھ آگئی ہے کہ تراویح اور تہجد دو جدا جدا نمازیں ہیں بلکہ میں یہ بات دلائل کے ساتھ دوسرے لوگوں کو سمجھا بھی سکتا ہوں۔ اور یہ بات بھی سمجھ آئی کہ رمضان المبارک میں خود نبی پاک ﷺ، صحابہ کرام، تابعین و تبعیین تابعین و تبعیین اہل اللہ علماء کرام تراویح کے علاوہ تہجد کی فضیلت و سعادت بھی حاصل کرتے تھے۔ اس لئے تراویح کے بعد رات کے اخیر حصہ میں نماز تہجد کی برکات اور اس کی فضیلت

بھی ہمیں حاصل کرنی چاہئے۔ تراویح اور تجد کے ایک ہونے کا فرضی و آخرت اعیینہ اختیار کر کے نہ خود تجد کی برکات و سعادات سے محروم ہونا چاہئے نہ دوسروں کو محروم کرنا چاہئے کیونکہ غیر رمضان میں جو تجد کی برکات پس رمضان المبارک کے برکتوں والے لمبینہ میں ختم نہیں ہو جاتیں بلکہ اضعافاً مضاعفہ بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن یہ فرمائیے کہ تراویح و تجد کے ایک نماز ہونے کا عقیدہ کسی اور کا بھی ہے؟

محقق عالم: دراصل یہ عقیدہ قادیانیوں کا ہے۔ چنانچہ قادیانیوں کی تدوین فقہ کمیٹی کی مرتب کردہ کتاب فقہ احمدیہ کے صفحہ ۲۰۸ پر لکھا ہے نماز تراویح دراصل تجد ہی کی نماز ہے۔ ازاں بعد سب سے پہلے مسجد چیدیاں والی لاہور کے غیر مقلد خطیب مولوی عبداللہ چکڑالوی (جوبعد میں منکر حدیث بن گیا تھا) نے مرتضیٰ احمد قادیانی کی تقلید میں اس عقیدہ کو اپنایا اور اسی بنیاد پر اُس نے ایک رسالہ لکھ کر تراویح کا انکار کیا۔ پھر عبداللہ چکڑالوی کی تقلید میں اکثر غیر مقلدین نے اس عقیدہ کو اختیار کیا اور اب غیر مقلدین کا محمدی گروپ ہو یا احمدی دونوں کا ایک ہی نعرہ ہے کہ تراویح اور تجد ایک ہی نماز ہے۔

شاهد اقبال: جناب یہا ارشاد فرمائیے کہ قادیانیوں اور غیر مقلدین کے علاوہ کسی اور نے بھی تراویح کا انکار کیا ہے؟

محقق عالم: جی ہاں۔ قادیانیوں اور غیر مقلدین کے علاوہ راضیوں نے بھی تراویح کا انکار کیا ہے۔ چنانچہ مختصر المذالق حاشیہ البحر الارائق: ج ۲ ص ۱۷ میں علامہ ابن عابدین شاہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں قَالَ فِي الْبُرُّهَانِ قَدِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى شَرُعِيَّةِ التَّرَاوِيْحِ وَ جَوَازِهَا وَكُمْ يُنْكِرُهَا أَخَدُّ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا الرَّوَافِضُ بِرَهَانِ مِنْ ہے کہ تراویح کی مشروعت اور اس کے جواز پر پوری امت کا اجماع ہے اور سوائے روافض کے اہل قبلہ (یعنی امت مسلمہ) میں سے کسی نے بھی تراویح کا انکار نہیں کیا لیکن ایک فرق ہے کہ روافض

نے تراویح کا صراحتاً انکار کیا ہے، کوئی ہیر پھر سے کام نہیں لیا۔ لیکن قادیانیوں اور غیر مقلدین نے مناقشہ طریقہ سے انکار کیا ہے یعنی بظاہر تاثر دیا اقرار کا مگر تراویح و تجد کو ایک قرار دے کر درپرداہ تراویح کا انکار کیا ہے۔

شاهد اقبال: اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر مقلدین نے تراویح کے انکار کا عقیدہ رافضیوں سے لیا اور مناقشہ طریقہ سے انکار کا انداز قادیانیوں سے لیا ہے یعنی اقرار کے پردے میں انکار اور یوں دورگی اختیار کر کے دوسروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں یہکہ چھوڑ، دور گک ہو جا۔

شاہد جوں جوں مسئلہ تراویح میں اہل السنّت والجماعت اور غیر مقلدین کے درمیان اختلاف کی حقیقت کو اور اس پر اہل السنّت والجماعت کے دلائل کو سنتا گیا توں توں اُس کی آنکھوں میں چک اور چہرے پر طمینیت کے آثار نمودار ہوتے گئے حتیٰ کہ غیر مقلد پروفیسر کے عقیدہ (تراویح و تجد ایک نماز ہے) کے متعلق اُس کے دل میں مختلف شکوک و شبہات اور سوالات پیدا ہو گئے۔ بالآخر شاہد، پروفیسر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست بستہ ہو کر عرض کیا، سر! اگر آپ محسوں نہ فرمائیں تو میں جناب سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔
پروفیسر: ہاں ہاں بیٹھا! ضرور پوچھتے۔

شاهد اقبال: سر! ایک گذارش ہے کہ آپ ان سوالات کے جواب میں قرآن یا حدیث کی صریح دلیل پیش کریں گے، اس میں اپنی یا کسی دوسرے امتی کی رائے شامل نہ کریں گے اور نہ ہی قیاس کریں گے۔

پروفیسر: بالکل بالکل۔ میں خالص قرآن و حدیث سے جواب دوں گا۔

شاهد اقبال: اگر آپ ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی صحیح صریح غیر معارض دلیل سے دے دیں، نہ قیاس کریں اور نہ ہی اپنی یا دوسرے امتیوں کی آراء پیش

کریں تو یہ نیاز مند جناب کا شکر یہ بھی ادا کرے گا اور الہادیث مسلک بھی قبول کرے گا۔

﴿غیر مقلد پروفیسر سے شاہد کے سوالات﴾

- 1..... جس طرح احادیث مرفوعہ میں نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، نماز اشراق، نماز چاشت، نماز تہجد، نماز وتر، نماز عید اور نماز جنازہ کے نام آئے ہیں، کیا کسی صحیح مرفوع حدیث میں صراحتاً کسی نماز کا نام تراویح بھی آیا ہے؟
- 2..... کیا حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے؟ یا یہ آپ کی یا آپ جیسے غیر معصوم امیوں کی رائے ہے؟
- 3..... کیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ایک نماز کا نام گیارہ ماہ تہجد ہے اور بارہویں ماہ یعنی رمضان میں اسی نماز کا نام تراویح ہو جاتا ہے؟
- 4..... کیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ گیارہ ماہ تہجد کا وقت رات کا آخری حصہ ہے اور بارہویں ماہ تہجد کا وقت نماز عشاء کے فوراً بعد ہے؟
- 5..... کیا نبی پاک ﷺ نے فرمایا ہے کہ گیارہ ماہ یہ نمازاً کیلئے پڑھو اور بارہویں ماہ جماعت کے ساتھ پڑھو؟
- 6..... آپ کے نزدیک نماز عشاء کے فوراً بعد تہجد، تراویح کے نام سے پڑھ لی جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ رات کے اخیر میں دوبارہ تہجد پڑھنا سنت ہے یا بدعت؟ اس کا حکم صریح حدیث میں دکھائیں۔
- 7..... حرمین شریفین میں رمضان کے آخری عشرہ میں نماز عشاء کے بعد تراویح اور رات کے اخیر میں تہجد علیحدہ پڑھی جاتی ہے، کیا اس کا ثبوت صحیح حدیث میں ہے؟ اگر حدیث سے یہ ثابت ہے تو وہ ثبوت پیش کریں کہ نبی پاک ﷺ رمضان میں تراویح کے بعد اخیر رات میں تہجد الگ پڑھتے تھے اور اگر یہ حدیث سے ثابت نہیں تو اہل حرم کا یہ عمل بدعت کے زمرہ میں آتا ہے یا نہیں؟

8.....امام بخاری رحمہ اللہ ماہ رمضان میں تراویح اور تہجد علیحدہ پڑھتے تھے۔ ان کا یہ عمل سنت کے مطابق ہے یا خلاف سنت ہے؟ اس عمل کے بعد وہ اہل السنۃ میں شمار ہوں گے یا اہل بدعت میں؟

9.....اگر تراویح و تہجد ایک نماز ہے تو کیا ایک رات میں دو دفعہ تراویح پڑھنا یا دو دفعہ تہجد پڑھنا سنت ہے یا خلاف سنت؟ صحیح صریح حدیث سے جواب دیں۔

10.....تراویح و تہجد علیحدہ پڑھنے کی صورت میں وتر تراویح کے بعد پڑھیں یا تہجد کے بعد یادوں کے بعد؟ صحیح صریح حدیث سے جواب دیں۔

11.....غیر مقلدین کے نزدیک وتر اور تہجد ایک نماز ہے۔ اگر تراویح اور تہجد بھی ایک نماز ہے تو تراویح اور وتر بھی ایک ہی نماز ہوگی تو پھر تراویح کے بعد وتر کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ پس جیسے غیر مقلدین کے نزدیک نماز تراویح ہی نماز تہجد ہے تو پھر وہی نماز وتر بھی ہوگی تو کیا تراویح کی رکھات سے تہجد اور وتر بھی ادا ہو جائیں گے؟ اور اگر وتر ادھبیں ہوتے بلکہ علیحدہ پڑھے جائیں گے تو پھر کیا تراویح، تہجد اور وتر تین جدا جد نمازیں ہوئیں یا ایک نماز؟

12.....کیا ایک وتر کے پڑھنے سے وتر، تراویح اور تہجد تینوں نمازیں ادا ہو جائیں گی؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو اس کیلئے صحیح صریح حدیث پیش کریں اور اگر جواب نفی میں ہے تو کیا یہ تینوں نمازوں کے جدا جدا ہونے کی دلیل نہیں؟

13.....اگر امام تراویح کی نیت کرے اور مقتدی تہجد کی، تو مقتدی کی نماز درست ہے یا نہیں؟

14.....امام تہجد کی نیت کرے اور مقتدی تراویح کی، تو مقتدی کی نماز درست ہے یا نہیں؟

15.....امام نے تراویح کی نیت کی، مقتدیوں میں سے بعض نے تراویح کی، بعض نے تہجد کی اور بعض نے وتروں کی نیت کی، کس کی نماز درست ہے اور کس کی فاسد ہے؟

16.....غیر مقلدین ہمیشہ ”آٹھ رکھات تراویح“ کے اشتہار شائع کرتے ہیں۔ کیا کبھی یہ